



## اشتمارات

**مجموعہ وراثت مع ترجمہ اردو -**  
 اس متبرک مجموعہ میں اسماء باری تعالیٰ و مقیدہ بردہ  
 وقتیدہ حضرت نوح پاک حزبا بکر و دعائے حاجری  
 و درود مستغاث و دعای حیدری و کسبیت احمد و درود  
 و درود معظم و دعای معنی و دعای سیدی و دعای قاب و  
 دعای اوراد فقیر و درود تاج و اسماء سرور عالم صلعم وغیرہ  
 میں نوائے مناسخ شامل ہو قیمت فی جلد ۸

**الانوار الخیرات مشتملہ -** وہ کون مسلمان ہر  
 جو اس کتاب متبرک کی عظمت کو واقف نہیں اہل اسلام  
 کو اسطرح یہ کتاب نعمت غیر مترقبہ ہو عام خواہش کے سبب سے  
 ترجمہ کر دیا ہے قیمت فی جلد ۸

**شعائر العاہل (ترجمہ) قول الجلیل -**  
 یہ متبرک و مستند کتاب لائق دید ہو ابتدا میں تصوف کا  
 بیان ہو آخر میں ضروریات دنیوی مثل ادعیہ قضائی جاتا  
 و دافع امراض وغیرہ کا ذکر ہے قیمت فی جلد ۸

**کار حقائق (شرح) پہل حدیث -**  
 یہ کتاب پہل حدیث کی شرح فظا اردو زبان میں ہے  
 قیمت فی جلد ۸

**وخلیفہ کریم (مع) اوراد فقیرہ -**  
 اوراد و ظائف میں یہ کتاب بھی لائق دید ہو قیمت جلد ۸  
 اوراد حسانی - یہ کتاب بھی لائق دید ہے  
 قیمت فی جلد ۸

**تحفۃ الانوار (ترجمہ) مشارق الانوار -**  
 یہ تقدس اور مستند کتاب علم حدیث میں اول درجہ کی ہے  
 مولف علیہ الرحمہ (۱۹۲۷ء) احادیث مجیدہ (۲۲۲)  
 احادیث جہانت کے ترجمہ فرمائے ہیں اور مترجم مرحوم نے  
 اس کتاب کا ترجمہ بڑی محنت اور خوبی سے اردو زبان

میں فرما کے جانجا ایسے قائم ہے بڑا دیرے جس سے  
 اس ترجمہ کو شرح لکھنا زیادہ قیمت جلد ۸  
**لصح العباد فی وجود القطب والابدال والامداد**  
 اس کتاب میں تاریخی حالات قطب ابدال اور امداد کے  
 لئے ہیں بڑی صحت کے ساتھ قیمت فی جلد ۸

**تالیف سلیمانی -** اوراد و عملیات و تعویذات  
 و نسخا سے مجرب ہیں شائقین کے واسطے یہ مجموعہ بھی لائق  
 قدر ہے قیمت فی جلد ۸

**باقیات الصالحات -** اس رسالہ میں  
 تمام اسماء الہی کے خواص اور طریق زکوہ بڑی خوبی کے ساتھ  
 بیان کیے ہیں قیمت فی جلد ۸


**خدا کی نعمت (معروف بہ) تفسیر مرادویہ -**  
 مولفہ مولانا شاد مراد اللہ صاحب سنبلی یہ تفسیر اردو  
 زبان میں شرح بسط کے ساتھ پارہ علم کی ہے کلمہ استعلا  
 مسلمانوں کو واسطہ مفید ہو قیمت فی جلد ۸

**تفسیر سورہ یوسف -** اردو نظم میں تفسیر  
 قدیم تالیفات سے ہے قیمت فی جلد ۸

**کلام المبین (نی) آیات رحمتہ للعالمین**  
 عام مسلمانوں کے واسطے یہ کتاب نعمت غیر مترقبہ ہے  
 جس میں جناب مولوی مفتی محمد عنایت احمد مرحوم نے  
 سرور عالم صلعم کے معجزات کو ایسی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے  
 جس سے ہر قسم کے معجزات حضور کو علیحدہ علیحدہ ہو گئے کسی فصل میں  
 پیشین گوئی کے معجزات ہیں کسی میں معجزات متعلق ملائکہ کسی میں  
 متعلق انسان کسی میں متعلق حیوان کسی میں متعلق اجزاء و اجسام  
 وغیرہ ہیں قیمت فی جلد ۸

**سبلستانِ حمت -** مصنفہ مولوی محمد حسن صاحب نے اس ترجمے  
 کی کتاب نظم نیری لکھی ہے لکھی کا ان کے شوق قیمت فی جلد ۸





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دل میں تھا یہی کہ سب سے اول مضمون ہے سہ سہائے عین حمد کہ یا ہو موزون  
 پر کلک و زبان کو کب ہی یاد کرے ۔ اوس مادی کو مٹی جو ہو و حد سے افزون  
 اللہم لا تحیی ثناء علیک انت کما اتینت علی نفسیک کیا صلح ہے کہ ہر ایک شو  
 میں دلیل اوسکی وحدانیت کی اظہار میں شمس اور سب چیزوں میں حجت اوسکی قدرت کی ابرین دلیل ہے  
 شتمہ تجلی حکمت کا اوسکی کلام مجرب نظام میں ہے کہ جسکی شان میں فرمایا و نزل من القرآن ما هو  
 شفاء اور دوسری جگہ ارشاد ہوا قل هو الذی انزل من السماء شفاء

اسمیں سو درد کی شفا پائی	الاکھون مضمون کی بی واپائی	سبب اوں سبب دوا اکمل
سب علاجوں سے یہ علاج افضل	اگر کوئی امر ناگہانی ہو	یا کہ کوئی مرض نہمانی ہو
کانونیر ہاتھ رکھے اوس سے حکیم	اور باپوں سے بچو دل میں سفیم	دل سے گروہ پڑھے کلام خدا
پاؤں سے ایسی ہلکت جلد شفا	نعت اور درود ناخوری و	کر پریا لارا بقیا دستگیر بکیان

اللہم لا تحیی ثناء علیک انت کما اتینت علی نفسیک کیا صلح ہے کہ ہر ایک شو میں دلیل اوسکی وحدانیت کی اظہار میں شمس اور سب چیزوں میں حجت اوسکی قدرت کی ابرین دلیل ہے شتمہ تجلی حکمت کا اوسکی کلام مجرب نظام میں ہے کہ جسکی شان میں فرمایا و نزل من القرآن ما هو شفاء اور دوسری جگہ ارشاد ہوا قل هو الذی انزل من السماء شفاء

چارہ ساز و ماندگان تاجداران ہوا کہ لا حنی یوحی مصداق ما یطوق عن اھل احمد  
 مجتبیٰ امیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ارشاد فیض بنیاد خیر کہ من تعلم القرآن  
 وعلما سے خلعت تیار اہل قرآن کو عطا فرمایا اور کلام فیض التیام اھل القرآن اھل  
 و خاصتہ سے فخر کا تاج او کو عنایت کیا اور اقرؤ القرآن فان اللہ لا یعدب قلبا و عیال قرآن  
 سے او کو بشارت شاملہ سالی اور اشرف امتی حملة القرآن سے او کو شرافت کاملہ مرحمت مانی نظر

رحمت عالم ہوا او کو خطاب خدا	نعت جو کوئی کرے او سکی تو ممکن ہو گیا
دل سے زبان سے مگر کہتا رہے یہ سدا	بھیج تو او کو سپر خدا رحمت لا انتہا

اللهم صل علیہ وحبب وترضی لہ وعلی اہلہ و اصحابہ و اھل بیتہ و  
 ذریقاتہ واتباعہ واتباع ائباعہ اجمعین بعد حمد و صلوة کے خاکسا  
 امام علی بن سید نجف علی اکبر آبادی تجاؤز کرے اللہ او سکے اور او سکے والدین اور اجاب  
 کے گناہوں سے آریاب ایمان و اصحاب ایقان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں  
 کہ اگرچہ اول تو نفس دعا بموجب لاین خالقضاء الا الدعاء کے ہر ایک بے سلاح  
 ہی سلاح اور ہر ایک کام کی اصلاح ہو اور حکم ادعوی استجب لکم کے ہر تیر دعا کا نشا  
 اجابت و فلاح ہو اور مصداق من لودع اللہ یغضب علیہ کے ہر کسی کو تمسک کرنا  
 اس جبل متین سے واجب اور منطوق الدعاء هو العبادۃ ہر انسان کو اس سے طرب  
 اللسان رہنا مناسب لیکن چونکہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل  
 اللہ علی خلقہ واقع ہو تو ظاہر ہی کہ کوئی دعا مورث برکات و حسنات و ارفع بلیات مضرات  
 بہتر کلام ربانی سے نہیں ہو سکتی خصوصاً آیات تمجید و استغفار و تسبیح و توکل و سلام  
 و تملیل و دعا کہ ہر مطلب کے واسطے اکیسیرین اور ہر بے سامان کے لیے تدبیر

یہ سب باتیں جو قرآن میں مذکور ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سناتے ان کو بڑی رحمت سے نوازتا ہے اور ان کو دنیاوی و دینی کاموں میں کامیاب بناتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے والوں کو بڑی رحمت سے نوازتا ہے اور ان کو دنیاوی و دینی کاموں میں کامیاب بناتا ہے۔

اگر انکو جواہر القرآن کہیے تو بجا ہی یا اسرار الفرقان نام رکھیے تو روا ہی اور اوصاف  
اونکے احادیث میں بے شمار اور صد ہا دقتوں میں لکھنے نہایت ہی دشوار منظر

وصف کرے جسکا رسول محمد کیا کرے انسان صفت اوسکی بی خاک کو نسبت نہیں کچھ پاک سے دیکھ حدیث نبوی کو ذرا بلکہ فقط ایک ہی سورت کی شان سوج ذرا اسکو کہ قرآن ہے یہ دل سے ہمیشہ ہی رکھ التجا نور سے قرآن کے دلون کو خدا اسکی قرأت ہمیں ہو و نصیب دنیا کے جتنے ہیں الم اور عشم گور میں مونس ہی اپنا رہے اسے مرے اللہ بحق رسول	اور وہ کھلائے کلام کریم ذرتے سے خورشید کو نسبت لیان پاسکے کہ اسکو وہ ادراک سے وصف میں قرآن کے لکھا ہی کیا دیکھ کے باقی کو کراوسپر گمان جس کے دل زندہ ہو وہ جان ہی زیادہ نہیں اس سے کوئی مدعا فضل سے رکھ اپنے منور سدا اسکا ہی مضمون ہے دل سے قریب ہو وین وہ سب اسکی تلاوت کم حشر میں بھی ساتھ شفاعت کرے بندہ عاصی کی دعا کر قبول
--	---

غرض کہ خلاصہ اوصاف اور شہادت تعریف یہ ایک شعر ہے شعر +  
لا دوا درد کی دوا یہ ہیں جملہ امراض کی شفا یہ ہیں

اور طریق انے فلاح پانے کا اور درد بنانے کا یہ ہو کہ کلام مجید کی جمیع آیات حمد  
جمعے کو اور آیات استغفار تمام ماہ شنبہ کو اور تمام تسبیحات یک شنبہ کو اور سراسر نوکل دو شنبہ  
کو اور جملہ سلام شنبہ کو اور ساری تہلیل چہار شنبہ کو اور جتنی دعائیں ہیں پچھلے شنبہ کو

پڑھے اور جمعے سے پھر شروع کرے اور تین ہفتے تک اسی طرح ایک ورور پڑھا کرے  
 اکیسویں دن دوپہر سے پہلے بعد ختم وظیفے کے چار رکعت نماز دو سلام میں  
 ادا کرے ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بار والعادیات پڑھے اور نماز کے بعد  
 کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْخَلْدُ الْحَيُّ وَيُمِيتُ  
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بعد اسکے دس مرتبہ درود پڑھ کر سجدے  
 میں جاوے اور اللہ سے حاجت طلب کرے پس یقین ہو کہ بہت جلد اپنی مراد کو  
 پاوے اور اسکی اسناد کے عجیب و غریب قصے بہت مروی ہیں منجملہ اونکے دو  
 ایک قصے بیان لکھے جاتے ہیں۔ ایک قصہ محمد بن اُسامہ کا ہے کہ جس میں جناب سائت  
 ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن اُسامہ کو اس وظیفے کی طرف ہدایت فرمائی اور  
 وہ یہ ہے کہ یونس بن طاہر لکھی کہ مقتدا سے بلج زمین روایت کرتے ہیں کہ اصفہان میں  
 ایک بزرگ محمد بن اُسامہ نام تھے علم و فضل میں بیگانہ اور زہد و تقویٰ میں پیشوا  
 زمانہ اتفاقاً حاسدون کی تممت کے باعث مجبوس ہوئے اور دو برس تک  
 محبس میں رہے لاچار ہو کر ایک رات کو نماز کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھایا  
 اور زار زار رو کر ہاتھ دعا کے واسطے بڑھایا اور کہنے لگے کہ اے تو جانتا ہے کہ میں کنگ  
 ہوں موت سے مجکو خوف نہیں الا یہ ڈر ہے کہ بدنامی کا کلنگ نہ لگے دشمنوں  
 کے ہاتھ سے تو ہی بچاؤ تو چھپا کھلا سب جانتا ہے اور تجکو سب قدرت ہو اور  
 تممت سے نجات بخش اور اس بدنامی کو مجھے اوٹھا۔ اس سچ میں  
 کچھ غفلت ہو گئی اور دیکھا کہ سرور اولیا سید الانبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ  
 علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ای ابن اُسامہ

ع  
 محمد بن اُسامہ  
 اور زار زار رو کر  
 ہاتھ دعا کے  
 واسطے بڑھایا  
 اور کہنے لگے  
 کہ اے تو جانتا ہے  
 کہ میں کنگ ہوں  
 موت سے مجکو خوف  
 نہیں الا یہ ڈر ہے  
 کہ بدنامی کا کلنگ  
 نہ لگے دشمنوں  
 کے ہاتھ سے تو ہی  
 بچاؤ تو چھپا کھلا  
 سب جانتا ہے اور  
 تجکو سب قدرت ہو  
 اور تممت سے نجات  
 بخش اور اس بدنامی  
 کو مجھے اوٹھا۔ اس  
 سچ میں کچھ غفلت  
 ہو گئی اور دیکھا  
 کہ سرور اولیا سید  
 الانبیا حضرت محمد  
 مصطفیٰ صلی اللہ  
 علیہ وآلہ وسلم  
 مسجد میں تشریف  
 رکھتے ہیں اور  
 فرماتے ہیں کہ  
 ای ابن اُسامہ

اس بلا سے چھوٹنے کے واسطے کلام ربانی کو ذریعہ کر اور فرمایا کہ مَنْ لَمْ يَشْفِ بِالْقُرْآنِ  
 فَتَلَا شِفَاءً لَهُ پین تھکو چاہیے کہ قرآن سے سات وظیفے نکال جمع کے دن تمام کلام  
 کی آیات تمہید اور شنبے کو تمام آیات استغفار اور یکشنبے کو تمام تسبیحات اور دو شنبے کو  
 تمام توکل اور شنبے کو تمام سلام اور چہار شنبے کو تمام تہلیل اور پختنبے کو تمام دعائیں  
 پڑھ اور شروع جمع کے روز سے کر اور تین ہفتے تک ہر روز اسی طرح ورد پڑھا کر  
 اکیسویں دن دوپہر سے پہلے جب وظیفہ پڑھ چکے چار رکعت نماز دو سلام میں ادا کر  
 ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ دفعہ العادیات پڑھ اور نماز سے فارغ ہو کے کہ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي  
 وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور دس بار مجھ پر درود بھیج اور سجدے میں جا کر  
 اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگ خدا سے تعالیٰ تھکو اس بلا سے نجات  
 دے گا۔ محمد بن اسامہ کہتے ہیں کہ جب میں اوس شخصیت سے ہوشیار  
 ہوا تو صدق دل سے جانا کہ فرمان رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ  
 علیہ وآلہ وسلم کا واقعی ہے اور یہ خواب بھی نہایت سچا ہے اس واسطے کہ  
 شیطان مردود آپ کی صورت نہیں بن سکتا پس اوس وقت میں اوٹھا اور  
 وضو کیا اور نماز پڑھی اور کلام اللہ کے بموجب حکم کے سب وظیفے علمی و عملی  
 جمع کیے اور اکیس دن تک پڑھتا رہا اکیسویں دن وظیفے کے بعد چاشت کے  
 وقت نماز پڑھی اور دعا پڑھ کر سجدے میں جایا چاہتا تھا کہ ناگاہ ایک بڑا  
 نبوہ نظر آیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ شہر کا قاضی اور اصفہان کے مشائخ پیادہ  
 چلے آئے ہیں۔ جب وہ سب میرے پاس آئے بڑی عزت اور اہمیت سے

جواہر القرآن جلد اول صفحہ ۶



زندان سے نکالا اور بہت سارے پیہنچیا اور کیا۔ اور اوس وقت مج کو اصفہان کا خطیب  
 اور امام مقرر کیا۔ مجھ کو نہایت تعجب ہوا۔ اوس وقت قاضی کہنے لگا کہ میں نے اسحضرت  
 صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں۔ کل ایک بڑی رُو آوے گی اور وہ  
 تمام شہر اور ولایت کو خراب کر دیگی۔ اگر لوگ اوس بلا کو ٹالنا اور اوس سے  
 بچنا چاہیں محمد بن اسامہ کو قید سے نکالیں اور عذر خواہی کریں تو البتہ خداے  
 تعالیٰ لوگوں کو اس بلا سے بچائے گا۔ صبح کو یہ خواب میں نے لوگوں سے کہا تو معلوم  
 ہوا کہ رئیس شہر نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ اسی واسطے ہم لوگ ملکر  
 آپ کی خدمت میں دوڑے۔ قاضی نے یہ بات پوری نہ کی تھی کہ ایک سوار  
 گھوڑا دوڑائے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ ایک بڑی رُو شہر کے گرد گھومتی ہی ہے  
 لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ وہی روہی جس کا نشان خواب میں معلوم ہو چکا تب وہ سب  
 میرے سامنے عذر کرنے لگے اور میرے پاتوں پر گرے میں نے اللہ جل شانہ سے  
 دعا مانگی اور وہ روہ تھوڑی تھوڑی کم ہونے لگی یہاں تک کہ کچھ باقی نہ رہی۔ اوس وقت  
 میں نے خدا کا شکر کیا اور خلق سے الگ ہو کر ایک عبادت خانے میں جا بیٹھا  
 اور اپنا وظیفہ روزمرہ انھیں آیات فیض سمات کو مقرر کیا۔ اور جو کچھ مجھ کو ملا  
 اسی ورد سے ملا۔ اسی طرح ہر مسلمان کو اعما و کرنا خدا پر اور حاجات دوہانی  
 میں اوسکے کلام سے توسل کرنا چاہیے۔ کیونکہ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ  
 لَهُ یعنی جو اللہ کا ہو رہے اللہ اوسکا ہوتا ہے اور دو اسرا قصہ یہ ہے کہ سلطان  
 سعید بن الدولہ ابوالقاسم محمود بکتگین نور اللہ مرقدہ کو تلاوت  
 قرآن شریف کا کمال ذوق تھا۔ الاہجوم اشغال سلطنت مزاحم و مانع مشوق تھا

علمائے دین کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو تلاوت کا بہت شوق ہے۔ الایہ سبب تر و دلت  
سلطنت کے اس سعادت سے کما یعنی بہت نہیں پاتا کوئی ایسی چیز  
ہو کہ اگر اس کو میں حفظ کر لوں اور وظیفہ بناؤں تو تمام قرآن کے حفظ کا  
ثواب بھی پاؤں اور حشر میں حافظین اور متبعین کے زمرے میں اٹھایا جاؤں  
اور دنیا و دین کی مرادیں اوسکی برکت سے بھر پاؤں۔ اوں علمائے چند روز  
کی مہلت لیکر کتب احادیث اور تفسیر کو دیکھا اور دریافت کیا کہ جو کوئی آیات تحمید و استغفار  
وغیرہ کو بوجہ تیب مرقومہ بالا پڑھے تو حافظین اور اہل اللہ کے زمرے میں شامل کیا جائے  
اور جب تک زندہ رہے خدا کی حفاظت اور توجہ خاص میں ہے۔ اور جمیع مرادیں  
دین و دنیا میں کامیاب و منصور ہو اور اوسکا دشمن اور بدخواہ نکوس اور مقہور ہو پس یہ ساتوں وظیفے لکھ کر  
بادشاہ کے حضور میں پہنچائے بادشاہ نے حرف بحرف مطابق اور امجد بن اسامہ کے پائے  
اور اونکی رعایت بہت کی یہاں تک کہ کسی دن ناغہ نکر تا اور ہر مہم و حاجت کو اس سے حاصل کرتا  
اب دو ایک بنجاح و سعادت کو کہ اس خاکسار کے تجربے میں آئے نظر رغبت  
شائقین لکھے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ عاجز ایک بار مرض شدید میں گرفتار ہوا اور

بہت ہی حال ناز ہوا غمناک	الغرض جب بہت ہوا بیمار	اور معالج بھی ہو گئے ناچار
دل میں سو طرح اضطراب	کیا کہوں کیسا چیخ و تاپ ہوا	جتنا میں اوس مرض سے گھبرا یا
بیقراری نے پائوں پھیلایا	لیک جب میں پیر پڑھنے لگا	نام کو بھی مرض تھا گویا
کس زبان سے کروں حمد خدا	دی مجھے ایسے دگر سے جلد شفا	دوسرے یہ کہ کفار کی نوکری

سے بوجہ شائبہ شک کے دل تنگ تھا بلکہ بمقتضای حیمت اسلام اونکی صحبت سے تنگ تھا  
گو دل سے خواہش کنارہ کشی کمال تھی الایہ بندی طمع جان کی مال تھی ہر چند اس نوکری سے

دست برداری کے واسطے تدبیریں ہو چیں مگر کوئی بن پڑھی انجام کار جب استہدایت تارک  
 نظر آیا تو انھیں غٹائف کو مشعل اہ مقصود ٹھہرایا تھوڑے دن گذرے تھے کہ ایک دفعہ  
 جی گھبرایا اور سواترک تعلق کے اور کچھ دل میں سمایا اور شد علی احسانہ کہ او سے جمع کروا کر  
 چھوڑا یا تیسرے یہ کہ جب تعلق دل کفار کی نوکری سے گیا تو موجب ع اگر دنیا نباشد دور و مندیم  
 کے اندیشہ نے زری نے پانوں پھیلا یا اور خیال نوکری بل سلام کا جی میں آیا اگرچہ اسلام میں  
 صاحب ت بہت تھے الا دین الیہ یجئین گذرتی تھیں کہ او کا جمع ہونا ایک شخص میں نظائر حال شوار  
 معلوم ہوتا تھا اور کبھی بعض ان غٹائف سے ای رعب چہرہ زور انعام اور احسان الہی اللہ ہی سے تعالیٰ نے شخص  
 کی خدمت میں بھیجا کہ جتنی باتیں دل میں تھیں اور دنیا باہر ان میں بائیں بعض ذات باہر کا جب سطر اس

مصدق و صفا مخزن لطف احسان	منبع جو دو کرم مجسم الطاف عیان
مصدق علم و حیا منظر انصاف و وفا	حاوی مکرمت و واحد مکتا سے زمان

عبدالعلی مولانا تقی اللہ العزیز جامع تفضلات پایا ان الاشان جناب محمد عبد الرحمن صاحب جاگی  
 محمد روشن خان مجرم و مغفور ظاہر کہ باوجود ان اوصاف و کمالات کے فرسخ میں ایسے طاق کہ ہر شعر سے پرواز کر  
 اور املاتش میں ایسے مشاق کہ ہر نقطہ جاو و طراز ہر ضد اقصا ان صفات و حسنات نے یادہ تراو نکو  
 خوبیاں اور نیکیاں عنایت فرمائی اگر اکر اکر انصاف سے مسرت اور حدت کروا کر دور رکھا خلوت رضا  
 و تسلیم حسن خاتمہ کا بتصدق سید المرسلین شفیع المذنبین عطا فرما کر بحیرۃ النبی ازالا اجماعا و ابیہوں سے عاکر  
 زانجا کہ جلالت اور چاشنی اس علو امی سے دور و من کلیم جان میں اللہ حق مکرر کا بخشش تھی لہذا اور اس  
 شریک کر نیکی لیے اسکے چھپوانے میں تکمیل فرما کر متعلق ہوئی اور خدا کے فضل سے یادہ توبہ ان کی طلب  
 ایہم کے برائی اللہ سے امید ہی کہ اسکو قبول فرماہ اور جمیع مسلمانوں کو توفیق اسکی تلامذت کی و اس  
 قیامت کو زمرہ صالحین میں اور ٹھہارے دیکھا کہ تامل سبنا اللہ انت اللہ صلیع العلیوم

اس کی اور صفائی

# الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں ساقی نام اللہ بخش کرنے والے مہربان کے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

سب تعریف واسطے اللہ کے ہی پروردگار عالموں کا بخشش کرنے والا مہربان

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

خلوند جزا کے دن کا تجھی کو عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ

دکھا ہمکو راہ سیدھی راہ اون لوگوں کی

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

کہ نعمت کی ہی تونے اونپر سوائے اونکے کہ غصہ کیا گیا ہو اونپر

وَالضَّالِّينَ ۝ اٰمِيْنَ ۝ وَحَسْبُ الْحَمْدُ

اور نڈراہ گراہوں کی قبول کر اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں ساقی تیری تعریف

وَ تَقْدِيسِكَ ۝ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے کہا تحقیق میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاکیزہ سے جو تم

سعی فرمائی  
میں سے  
پاکیزہ سے

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

کمایا تھے اور اوس چیز سے کہ نکالا ہے تمہارے واسطے تمہارے زمین سے

وَلَا تَتِمُّوا الْخَيْثُ مِنْهُ تَفْقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيَارٍ

اور مت قصد کرو خبیث اوس میں سے کہ خرچ کرو اور سکو اور نہیں تم لینے والے اوس کے

الآن تغضبوا فيه واعلموا ان الله غني

مگر یہ کہ اگر کچھ لوتم اوس سے اور جانو تم یہ کہ اللہ سے پرواہ ہے

حميد وان تكفروا فان لله ما في السموات

تعریف کیا گیا اور اگر کفر کرو تم پس تحقیق واسطے اللہ کے جو کچھ ہے آسمانوں کے

وما في الارض وكان الله غنيا حميدا

اور جو کچھ ہے زمین کے اور ہی اللہ بے پرواہ تعریف کیا گیا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي

شروع کرتا ہو نہیں ساتھ نام اللہ بخش کر نبیوں کے مہربانے سب تعریف واسطے اللہ کے جو کچھ ہے

خلق السموات والارض وجعل الظلمة والنور

پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور پیدا کیا اندھیرا اور اوجھالا

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فقطعدا

پھر وہ لوگ کہ کافر ہوئے ساتھ پروردگار اپنے کے برابر کرتے ہیں پس کافی کمی ہے

القوم الذين ظلموا والحمد لله رب

اوس قوم کی جو ظلم کرتی تھی اور سب تعریف واسطے اللہ کے جو کچھ ہے پروردگار

العالمين ونزعنا ما في صدورهم من

تمام عالموں کا اور کھینچ لیا ہم نے جو کچھ اونس کے سینوں میں تھا

غل جري من تحتهم الا نهر وقالوا الحمد

کھینچے سے چلتی ہیں اونس کے سے نهر اور کہا اور انہوں نے سب تعریف

شاہزادہ سید ابرہیم علیہ السلام سے سورۃ النبا اور سورۃ  
شاہزادہ سید ابرہیم علیہ السلام سے سورۃ النبا اور سورۃ  
شاہزادہ سید ابرہیم علیہ السلام سے سورۃ النبا اور سورۃ  
شاہزادہ سید ابرہیم علیہ السلام سے سورۃ النبا اور سورۃ  
شاہزادہ سید ابرہیم علیہ السلام سے سورۃ النبا اور سورۃ

اللّٰهُ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا

ما سطر اللہ کے کہ ہدایت کی ہو اس کی طرف اور نہ تھے ہم کہ راہ پاوین اگر نہ

اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِالْحَقِّ

راہ دکھاتا ہو اللہ البتہ تحقیق آئے تھے پیغمبر پروردگار ہمارے ساتھ حق کے

وَنُودُوا اَنْ تَكْفُرُوا بِالْحَيَّةِ اَوْ يَكْفُرُوا بِكُمْ

پورے پکارے جاوینے کہ یہ ہو بہشت وارث کے گئے ہو تم اس کے سبب اس کے کہ تم

تَعْمَدُونَ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

کرتے تحقیق جو لوگ کہ ایمان لائے اور کام کئے اچھے

يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِآيٰمِنَا نِهْمُ كَيْفِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ

راہ دکھادے گا ان کو سب اور ان کا سبب اون کے ایمان کے چلین کی سبب اور ان کے

اَلَا تَنْهَوْنَ فِيْ جَنَّةِ النَّعِيْمِ دَعْوًا يٰحُرِّفُهَا

پہرین نہج بہشتوں نعمت کے پکارنا اور نکالنا ہو اوسین

سَبْحَانَكَ الْاَعْمٰرُ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّاٰخِرُ

یاقی ہو تم کو اسی اللہ اور وہاں عبادت کی اون کی سبب اور اس کے سلام ہو اور آخر

دَعْوًا يٰحُرِّفُهَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالُوْا

پکارنا اون کا یہ ہے کہ سب تعریف و اوصاف اللہ کے جو پروردگار عالموں کا ہی کہا اور انھوں نے

الْعَجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ

کیا تعجب کرتی ہو خدا کے حکم سے رحمت اللہ کی اور برکتیں اور اس کی پھر ان

اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ هُوَ الَّذِيْ

اسے اس کے لئے لوگ تحقیق وہ تعریف کیا گیا بزرگ ہے وہی ہے جو

پیغمبر و اولاد و ائمتہ و آلہ و صحابہ و تابعین و غیرہ

سورۃ الفرقان آیت ۱۱

سورۃ الفرقان آیت ۱۱

سورۃ الفرقان آیت ۱۱

سورۃ الفرقان آیت ۱۱

الثَّقَالِ ۝ وَيَسْبِرُ الرَّعْدُ بِجَنَابِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ

بہار سے اور شہیر کرتا ہے کہ جسے والا ساتھ تعریف کی اور فرشتے

خَفِيَّتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

اوسکے ڈرتے اور بھیجتا ہے کرنے والی جلیان پس پونجا دیتا ہے اوسکو جسکو

يَشَاءُ وَهُوَ بِكَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ۝

چاہے اور وہ جھکاتے ہیں اللہ میں اور وہ سخت عذاب والا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الرَّحْمَنُ أَنْزَلَهُ

شروع کرتا ہوں میں ہوا حق نام اللہ بخشنے والے اور مہربان کے کتاب ہے اور اتارا اللہ نے اوسکو

إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝

طرف تیرے تو کہ نکالے تو اوسکو اندھیروں سے اور جانے کی طرف

يَا ذُنُوبَكُمْ رَأَيْتُمْ بِرَبِّهِمْ أَلَّا يَكْفُرَ الْإِنسَانُ بِمَا كَفَرَ ۝

یا تم علم اوسکے پروردگار کے طرف راہ عزت والی تعریف کی گئی کہ

وَقَالَ مَوْلَاكُمْ إِنِّي أُنزِلُكُمْ فِي

اور کہا ہوسے کہ میں انکو کفر کرو اور جو کوئی بیچ

الْأَرْضِ خَرَجَ مِمَّا قَدْ فَخَّرَ اللَّهُ لَكُمْ جَمِيدًا ۝

زمین کے جو سب پس تحقیق اللہ اللہ سے پروردگار ہے تعریف کیا گیا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ

سب تعریف اوسے اللہ کے جسے بخشا جب اوسے بڑائی کے

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ

اسماعیل اور اسحق تحقیق پروردگار میرا اللہ ہے والا

الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ

دعا کے اے رب یہ کہ مجھ کو قائم رکھنے والا

۱۱ سو کرا ابراہیم صبر اور کج شہیر ۱۱

۱۱ کج ہوا آدم ۱۱

۱۱ کج ہوا آدم ۱۱





حَلِيمًا غَفُورًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ

خجل والا بخشنه والا جسدن بلاوسے گا تمکو پس جواب دیوگے

بِحُجْرَةٍ وَتَظُنُّونَ أَنَّ لُبَّكُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قُلْ

ساتھ اوسکی تعریف کے اور جانوگے نہیں رہے تھے تم مگر تھوڑا

ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ

پکارو اللہ کو یا پکارو رحمن کو جسکو پکارو گے تم پس اسطے اوسکے

الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ

ہن نامِ ست اچھے اور مت آواز بلند کر، ساتھ نماز اپنی سکا اور نہ بہت ہستہ کر

بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

ساتھ اوسکے اور دھونڈھو درمیان اوسکے راہ اور کم سب تعریف اسطے اللہ کے جسے

لَمْ يَخْذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ

نہیں پکڑی اولاد اور نہیں ہی واسطے اوسکے شریک بیچ بادشاہی کے اور نہیں

يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرًا ۝ بِسْمِ اللَّهِ

ہی واسطے اوسکے دوست بچانے والا ذلت سے اور بڑائی کروا اوسکی بڑائی کرنا شروع کرنا ہونے ساتھ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ

بخشنش کرنے والے مہربان کے سب تعریف اسطے اللہ کے جو جسے اتاری اپنے بندے پر

الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ قِيلَ لِيُذَبِّسًا

کتاب اور نہ کی واسطے اوسکے کبی درنخالی کردہ قائم رکھنے کی یہ وہی کو توڑو اور عذاب

شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

سخت سے اوسکے پاس سے اور بشارت دے ایمان والوں کو جو

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝ مَا كَثُرَ فِيهِ

عمل کرنے میں اچھے یہ کرو واسطے اوسکے ہی ثواب اچھا رہنے والے بیچ اوسکے

صلوات اور کوع مذکور ۱۲ صلوات کو دروازہ دم ۱۳ صلوات کو دروازہ صراط صول یا و الفیض اور دروازہ شہداء و دروازہ شہداء و دروازہ شہداء و دروازہ شہداء ۱۱ صلوات سورۃ الکف صدہ کو ۱۲

أَبْدَانًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

ہمیشہ اور ڈراوے اور لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بڑی ہی اللہ نے اولاد

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ

پس صبر کر اور سب چیزیں کہتے ہیں اور سبوح کر سادہ تعریف پروردگار اپنے گاہ

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ

سورج کے اور پہلے اوس کے ڈوبنے سے اور گھڑوں میں رات کی

فَسَبِّحْهُ وَآطُرَ الْبُحُورِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ وَهُدًى وَإِلَى

پس سبوح کر اور گھڑوں سے دن کے شاہد کو راضی ہو اور راہ دکھلائی گئی طرف

الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًى وَإِلَى الْأَرْضِ الْحَمِيدُ لَهُ مَا

پاکیزگی کے بات سے اور راہ دکھلائی گئی ہر طرف ذراہ تعریف کی گئی کے واسطے اوس کی

فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ حَمِيدٌ

آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور تحقیق اللہ البتہ وہ ہے بے پرواہ تعریف کیا گیا

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ عَلَاقُكَ فَقُلِ الْحَمْدُ

پس جبوقت سوار ہوتو اور جو کوئی ساتھ تیرے ہی اوپر ہستی ہے پس کہ سب تعریف

لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ

واسطے اللہ کے ہی جسے نجات دی ہمکو ظالموں کی قوم سے اور توکل کر اور پروردگار سے

الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ عِبَادَةً

جو نہیں مرتا اور یا کی بیان کر سادہ اس کی تعریف کے اور کفایت ہے وہ سب بندوں کے لئے

خَيْرًا ۝ وَلَقَدْ أَنبَاكَ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ عَلَٰمًا وَقَالَا

خبردار اور البتہ تحقیق دیا نے داؤد کو اور سلیمان کو علم اور کہا دونوں نے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

سب تعریف واسطے اللہ کے جس نے بزرگی دی ہمکو اور بہت بندوں اپنے ایمان والوں کے

میں اور طرح طرح سے سب چیزیں کہتے ہیں اور سبوح کر سادہ تعریف پروردگار اپنے گاہ اور راہ دکھلائی گئی ہر طرف ذراہ تعریف کی گئی کے واسطے اوس کی اور جو کوئی ساتھ تیرے ہی اوپر ہستی ہے پس کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہی جسے نجات دی ہمکو ظالموں کی قوم سے اور توکل کر اور پروردگار سے جو نہیں مرتا اور یا کی بیان کر سادہ اس کی تعریف کے اور کفایت ہے وہ سب بندوں کے لئے خبردار اور البتہ تحقیق دیا نے داؤد کو اور سلیمان کو علم اور کہا دونوں نے الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عبادہ المؤمنین سب تعریف واسطے اللہ کے جس نے بزرگی دی ہمکو اور بہت بندوں اپنے ایمان والوں کے

۱۱

قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہی اور سلام اوسکے بندوں پر جنکو برگزیدہ کیا

اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرَتِكُمْ

اللہ بہتر ہی یا جسکو شریک لاتے ہیں اور کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہی البتہ کھلا دیکھا

آيَتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَأَيْتُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

لشانیان اپنی پہچانوں کے تم اونکو اور نہیں پروردگار تیرا غافل اوس چیز سے کہ کرتے ہو تم

وَرَأَيْتُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

اور پروردگار تیرا جانتا ہی جو کچھ چھپاتے ہیں سینے اوسکے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخَلْقُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ

اور وہی اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ اوسکے واسطے ہی سب تعریف دنیا اور آخرت میں

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ

اور اوسے کے لیے ہی حکم اور اوسکی طرف پھرے جاؤ گے اور اگر پوچھے تو اوسے کون منظر

نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلَحِيحًا بِهِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ

اوتارنا ہی آسمان سے پانی پس زندہ کرتا ہی اوس سے زمین کو پیچھے

مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

اوسکے موت کے البتہ کہیں گے اللہ کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہی بلکہ اکثر اوسکے

لَا يَعْقِلُونَ ۝ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

نہیں جانتے پس پاکی ہی اللہ کو جسوقت کہ شام کرتے ہو تم اور جس وقت

تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحِينَ

کہ صبح کرتے ہو تم اور واسطے اوسکے ہی سب تعریف آسمانوں میں اور زمین میں اور تیسرے پر

وَحِينَ تَضُرُّونَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

اور جب ضرر کرتے ہو تم نکالتا ہی زندے کو مردے سے

صدور کو بچھتہ ۱۱ غامی اوسکے سوم سیدار بچھتہ ۱۱ سورۃ القصص الکریم دہم ۱۱ سورۃ العنکبوت افرد کریم دوم سیدار بچھتہ ۱۱ سورۃ النور الکریم ثانی ۱۱ سورۃ النور الکریم بچھتہ ۱۱

وَيُخْرِجُ السَّيِّئَاتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے اور جلاتا ہے زمین کو پیچھے اور اسکی موت کے

وَكَذَلِكَ نُفِخُ بِنُفُوسِكُمْ ۚ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

اور اسبطح نکالے جاؤ گے تم اور البتہ تحقیق دی ہمیں فغان کو حکمت

إِن شَكَرْتُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يُشْكِرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

یہ کہ شکر کرے واسطے اللہ کے اور جو کوئی شکر کرتا ہے پس سوال کے نہیں کہ شکر کرتا ہے واسطے اپنی جان کے

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

اور جو کوئی کفر کرتا ہے پس تحقیق اللہ ہی بے پرواہ تعریف کیا گیا اور اگر سوال کرے تو اونے

مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ

کسے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو البتہ کہتے اللہ تو کہ

أَحْمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

سب تعریف واسطے اللہ کے ہی بلکہ اکثر انکے نہیں جانتے واسطے اللہ کے ہی جو کچھ آسمانوں

وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ إِنَّمَا يُؤْمِنُ

اور زمین میں ہی تحقیق اللہ وہ ہی ہے بے پرواہ تعریف کیا گیا سوال کے نہیں کیا ہوا ہے

بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ

ساتھ نشانہوں ہمارے وہ لوگ کہ جب یاد دلائی جاتی ہیں انکو گر پڑتے ہیں سجدے میں اور یا علی زبان کرتے ہیں ستائش

رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پروردگار اپنے کے اور وہ نہیں تکبر کرتے شروع کرتے ہیں ساتھ نام اللہ تعالیٰ کی ستائش کہ نبیوں کے ہر ان کے

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ

سب تعریف واسطے اللہ کے ہی جسکا ہی جو کچھ آسمانوں کے اور جو کچھ زمین کے ہی اور واسطے اسکی

الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ

سب تعریف آخرت میں اور وہ ہی حکمت والا خبر دار اور جانتے ہیں وہ لوگ

مقطع لقمن بعد کو شروع ہوا ۱۳ در کو شروع ہوا ۱۳

مقطع السجدت بعد کو شروع ہوا ۱۳

مقطع الحمد للہ بعد کو شروع ہوا ۱۳

Marfat.com

أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَ

کہ دیے گئے ہیں علم وہ جو اوتارا گیا ہے طرف تیرے پروردگار تیرے سے وہ ہی حق اور

يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

راہ دکھاتا ہے طرف راہ غالب تعریف کیے گئے کے شروع کرتا ہوں نہیں ساتھ نام اللہ بخش کرے اور ان کے

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ

سب تعریف واسطے اللہ کے ہی پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا بنانے والا فرشتوں کو

رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مِّثْنِي وَثَلَاثٍ وَرُبْعٍ طَيْرٍ زَيْدٍ

پیغام لانے والے بیرون والے دو دو اور تین تین اور چار چار زیادہ کرتا ہے

فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا

پیدا کرنے میں جسکو چاہے تحقیق اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور

النَّاسُ أَنْتُمْ أَفْقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

لوگو تم محتاج ہو اللہ کے اور اللہ وہ ہے بے احتیاج تعریف کیا گیا

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا

اور کہیں گے سب تعریف واسطے اللہ کے ہی جس نے دور کیا ہے غم تحقیق پروردگار ہمارا

لِغَفْوِ شَكْرًا ۝ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن

البتہ بخشنے والا قدرت دان ہے جسے اوتارا ہمارا ہمکو ہمیشہ رہنے کے گھر میں

فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُيُوبُ ۝

اپنی مہربانی سے نہیں پڑتی ہمارا اور ہمیں پڑتی ہمارا او ہمیں مانگی

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

پالی بیان پروردگار عزت والے کی اوس چیز سے کہ بیان کرتے ہیں اور سلامتی پیغمبروں پر

وَإِلَّا حَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَجَلِيلٌ مُبْتَلِي

اور سب تعریف ہی واسطے اللہ پروردگار عالموں کی بیان کی اللہ نے مثال ایک مرد ہی بیچ اوس کے شریکین

مستدرکوں سے باخبر رہو ۱۲ مستدرکوں سے باخبر رہو ۱۲ مستدرکوں سے باخبر رہو ۱۲ مستدرکوں سے باخبر رہو ۱۲

مَشْكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَّمَ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ

بدنو اور ایک مرد جو سلامت واسطے ایک مرد کے کیا برابر ہونے دونوں

مَثَلًا أَحَدٌ بِاللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا الْحَمْدُ

مثال میں سب تعریف واسطے اللہ کے جو بلا اللہ اور کئے نہیں جانتے اور ہمیں سب تعریف

لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا

واسطے اللہ کے جو جسے سچا کیا ہمیں وعدہ کو اور وارث کیا ہم کو زمین بہشت کا جگہ پڑتے ہیں ہم

مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

بہشت میں جہاں چاہیں پس بہت اچھا ہی ثواب عمل کرنے والوں کا

وَتَرَى السَّلْكَاءَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ

اور دیکھو گا تو فرشتوں کو گھیرے ہوئے گرد عرش کے پاکی بیان کرتے ہیں

بِحَمْدِهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

ساتھ تعریف پروردگار اپنے کے اور فیصلہ کیا جانا ہی درمیان اون کے ساتھ حق کے اور کہا گیا سب تعریف ہو وہی ہے اللہ

رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْعَرْشَ مِنْ حَوْلِهِ

پروردگار عالموں کا وہ لوگ جو اوٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو گرداؤں کے ہیں

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ

پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف رب اپنے کے اور ایمان لاتے ہیں ساتھ اوس کے اور بخشش مانگتے ہیں

لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا

اون لوگوں کے واسطے کہ ایمان لائے ای رب ہمارے سما لیا تو نے ہر چیز کو رحمت کر اور علم کر

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

پس بخش دے اون لوگوں کو کہ توبہ کی اور پیروی کی تیری راہ کی اور بچاؤ ان کو عذاب

الْحَكِيمِ ۝ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِنَبِيِّكَ

دورخ سے پس صبر کر تحقیق وعدہ اللہ کا سچ ہی اور بخشش مانگ واسطے گناہ اپنے کے

صد در لکون بجز تعریف پروردگار

سورۃ المؤمن در لکون بخشش

در لکون بار دوم

وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ هُوَ الْحَيُّ

اور پائی بیان کر ساتھ تعریف پروردگار اپنے کے تیسرے پہ اور صبح کو

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط إِنَّ

ہمیں کوئی معبود مگر وہ پس پکارو اسکو خالص کر کے واسطے اسکی عبادت کے سب تعریف

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا

واسطے اسپروردگار عالموں کے ہی تحقیق وہ لوگ کہ کافر ہوئے ساتھ ذکر کے جب

جَاءَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ لَكِتَابًا عَزِيزًا ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ

آئی اسکی پاس اور تحقیق وہ اللہ کتاب ہی عزت والی ہمیں آتا اسکی پاس جھوٹ

بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

آگے سے اسکی اور نہ پیچھے سے اسکی اوتاری گئی ہی حکمت والی تعریف کیے گئے کی طرف سے

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتْفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ لَاسِيئُونَ

نزدیک ہی کہ آسمان پھٹ جاویں اپنے اوپر سے اور فرشتے پائی بیان کرتے ہیں

بِحَمْدِكَ رَبُّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ

ساتھ تعریف پروردگار اپنے کے اور بخشش مانگتے ہیں واسطے اون لوگوں کے کہ زمین میں ہیں خبردار ہو

اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ

تحقیق اللہ وہ ہی بخشنے والا مہربان اور وہ ہی جس نے اوتارے

الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَكِيلُ

مینہ بھیجے اسکی کہ نا امید ہوئے اور پھلاتا ہی رحمت اپنی اور وہ ہی دوست

حَمِيدٍ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ

تعریف کیا گیا ہیں اسے اللہ کے ہی سب تعریف پروردگار آسمانوں کا اور پروردگار زمین کا پروردگار

لِلْعَالَمِينَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرُ بَاءً فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

عالموں کا اور واسطے اسکی ہی بزرگی سچ آسمانوں کے اور زمین کے

اور کوع دروازہ دوم

میں تحقیق در کوع ہجرت

میں تحقیق در کوع دو بسیار بستی نم

میں تحقیق در کوع ہجرت







الضالین الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

نیکیوں لینے کا وہ لوگ جو کہ نہیں خوف ہی اور ہر اوسکے اور نہ وہ

انك حميد مجيد و صلى الله على محمد وعلى آل

تختی تو تعریف کیا گیا بزرگ ہی اور درود بھیجے اللہ حضرت محمد پر اور آل پر

محمد و سلم اللهم شرفنا بكتابك الكريم

حضرت محمد پر اور سلام بھیجے اللہ میرے مشرف کر تو ہو جو ساتھ اپنی کتاب بزرگ کے اور

وعزنا بآبائنا القديمة وثبتنا على منهاج

معزز کر تو ہو جو ساتھ اپنے کلام قدیم کے اور ثابت رکھ تو ہو جو اور طریق

المستقیم نوراً بنوراً بالنار وأصله بينه حالنا

سیدھے کے اور روشن کر تو ہو اوسکی روشنی سے دل ہمارا اور درست کر تو ہو اوسکی برکت حال ہمارا

ولجعله لنا حافظاً وحارساً من الآفات و

اور کر تو ہو اوسکو ہمارے لیے حفاظت کرنیوالا اور نگہبان آفتوں اور

العاهات والبليات في السفر والحضر و

بلاؤں اور آفتوں سے سفر میں اور حضر میں اور

الليل والنهار والنوم واليقظة وفي جميع

رات میں اور دن میں اور سونے میں اور جاگنے میں اور سب

أحوالنا وقضاء حاجتنا اللهم اختم لنا

حالات میں ہمارے اور پوری ہوئے ہماری حاجتوں میں ہی اللہ خاتمہ کر تو ہمارا

بالخير والسعادة وليصل آخر قولنا قول

ساتھ خیر اور نیک بختی کے اور چاہتے کہ سب آخر قول ہمارے قول

الشهادة يا أرحم الراحمين

شہادت کا اسے زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے

## الاستغفار فی یوم السبت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ

شروع کرتا ہوں میں سے تم نام اللہ بخشش کرنے والے ہر بان کے پھر پھر وہاں سے

أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

بھرتے ہیں لوگ اور بخشش مانگو اللہ سے تحقیق اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ

ہر بان ہی وہ جو صبر کرنے والے ہیں اور سچے اور فرمانبرداری کرنے والے

وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝ وَالَّذِينَ

اور خرچ کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بیچ پچھلی رات کے اور جو لوگ

إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

جب کریں بیجا ہی یا ظلم کریں اپنی جانوں پر یاد کریں اللہ کو

فَاسْتَغْفِرُوا لِلذَّنْبِ بِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

پس بخشش مانگیں واسطے اپنے گناہوں کے اور کون بخشتا ہے گناہوں کو مگر اللہ

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ فَمَا رَحِمَهُ

اور نہ ہٹ کریں اوپر اوس چیز کے کہ کیا اور وہ جانتے ہیں پس ساتھ رحمت

مَنْ اللَّهُ لِنْتُ لَهُمْ وَكُنْتُ فظاً غَلِيظاً الْقَلْبُ

اللہ کے نرم ہوا تو واسطے اونکے اور اگر ہوتا تو سخت خو سخت دل یعنی بیرحم

لَا أَنْقِضُوا مِنْ حَقِّكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

البتہ بھاگ جاتے تیرے گرد سے پس معاف کر اوف اور بخشش مانگ

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

واسطے اونکے اور مشورت کراؤ فی بیچ کام کے پس جب قصد مقرر کرے تو

بِسْمِ اللَّهِ

سورۃ البقرہ در کون عظیم پیارہ دوم ۱۲ سورۃ الاحقاف در کون عظیم پیارہ سوم ۱۲ سورۃ کوثر عظیم ۱۲ سورۃ کوثر عظیم ۱۲ سورۃ کوثر عظیم ۱۲



لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

کہ عذاب کرتا اور نکو اور توبہ کے لیے تھا اور نہیں ہے اللہ عذاب کرنے والا اور نکو

وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

اگر ہو ان وہ بخشش مانگنے والے بخشش مانگنے واسطے اور نہ بخشش مانگنے واسطے اور نہ

اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

اگر بخشش مانگنے واسطے اونکے ستر بار پس ہرگز نہ بخشے گا اللہ واسطے اونکے

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ

اسو واسطے ہے کہ کافر ہوئے ساتھ اللہ کے اور اونکے رسول کے اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ

نہیں ہدایت کرتا قوم فاسقوں کو نہیں تھا واسطے نبی کے اور جو لوگ

اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ

کہ ایمان لائے یہ کہ بخشش مانگیں واسطے مشرکوں کے اور اگرچہ

كَانُوْا اَوْلِيَٰٓ اٰقْرَبٰٓى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ

ہوں صاحب قرابت پیچھے اسکے کہ ظاہر ہوا واسطے اونکے کہ وہ سنیے اور

اَلْحٰكِمِيْنَ ۗ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِحَبِيْبِهِ

دورخ کے کہن اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم کا واسطے باپ اپنے کے

اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهَا

مگر بسبب وعدے کے کہ وعدہ کیا تھا اوس سے یہ پس جب ظاہر ہوا واسطے او

اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّ اَمِنْهُ ۗ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَوٰ اٰلَ

یہ کہ وہ دشمن ہے اللہ کا بیزار ہوا اوس سے تحقیق ابراہیم البتہ دردمند تھا

حٰلِيْمٌ ۗ وَاِنْ اسْتَغْفِرْ وَاَرٰكُمْ شُرَكَآءُ بَعَا

تخل والا اور یہ کہ بخشش مانگو ہر دو گار اپنے سے پھر توبہ کرو

سورة التوبة در کتب شاہ زکریا رحمہ اللہ ص ۱۱  
ص ۱۲  
ص ۱۳  
ص ۱۴  
ص ۱۵  
ص ۱۶  
ص ۱۷  
ص ۱۸  
ص ۱۹  
ص ۲۰  
ص ۲۱  
ص ۲۲  
ص ۲۳  
ص ۲۴  
ص ۲۵  
ص ۲۶  
ص ۲۷  
ص ۲۸  
ص ۲۹  
ص ۳۰  
ص ۳۱  
ص ۳۲  
ص ۳۳  
ص ۳۴  
ص ۳۵  
ص ۳۶  
ص ۳۷  
ص ۳۸  
ص ۳۹  
ص ۴۰  
ص ۴۱  
ص ۴۲  
ص ۴۳  
ص ۴۴  
ص ۴۵  
ص ۴۶  
ص ۴۷  
ص ۴۸  
ص ۴۹  
ص ۵۰  
ص ۵۱  
ص ۵۲  
ص ۵۳  
ص ۵۴  
ص ۵۵  
ص ۵۶  
ص ۵۷  
ص ۵۸  
ص ۵۹  
ص ۶۰  
ص ۶۱  
ص ۶۲  
ص ۶۳  
ص ۶۴  
ص ۶۵  
ص ۶۶  
ص ۶۷  
ص ۶۸  
ص ۶۹  
ص ۷۰  
ص ۷۱  
ص ۷۲  
ص ۷۳  
ص ۷۴  
ص ۷۵  
ص ۷۶  
ص ۷۷  
ص ۷۸  
ص ۷۹  
ص ۸۰  
ص ۸۱  
ص ۸۲  
ص ۸۳  
ص ۸۴  
ص ۸۵  
ص ۸۶  
ص ۸۷  
ص ۸۸  
ص ۸۹  
ص ۹۰  
ص ۹۱  
ص ۹۲  
ص ۹۳  
ص ۹۴  
ص ۹۵  
ص ۹۶  
ص ۹۷  
ص ۹۸  
ص ۹۹  
ص ۱۰۰

إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي

طرف اوسکے فائدہ دیکھا تمکو فائدہ اچھا ایک وقت مقرر تک اور دیکھا

كُلَّ فَضْلٍ فَضْلَهُ ذُو ان تَوْفَاقِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

ہر بڑائی والے کو بڑائی اوسکی اور اگر پھر جاؤ تم پس تحقیق میں ڈرتا ہوں اور تمہارے

عَذَابِ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ

عذاب دن بڑے کے سے طرف اللہ کے ہی پھر جانا تمہارا اور وہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَيَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

اوپر ہر چیز کے قادر ہی اور ہر قوم میری بخشش مانگو پروردگار لینے سے

ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

پھر توبہ کرو طرف اوسکے بھیج دیکھا ابر کو آسمان سے اوپر تمہارے برسے والا

وَيُرِيكُمْ قُوَّةَ اللَّهِ إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا جُرْمِيْنَ

اور زیادہ دیکھا تمکو زور طرف زور تمہارے کے اور مت پھر جاؤ گنہگار ہو کر

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الصَّلَاةَ وَالْيَاكُوتَ وَمَا أُوتُوا مِنْهُ

اور طرف توبہ کے بھائی اوسکے صلح کو کہا ای قوم میری عبادت کرو اللہ کی

مَالِكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرَ لَطْفٍ لَهُ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

مہین واسطے تمہارے کوئی معبود سوا اوسکے اوسنے پیدا کیا تمکو زمین سے

وَأَسْتَعْمِرْكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَوْبُوا إِلَيْهِ

اور آباد کیا تمکو بیچ اوسکے پس بخشش مانگو اوس سے پھر پھر آؤ طرف اوسکے

إِنْ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝ وَأَسْتَغْفِرُكُمْ وَأَنْتُمْ

تحقیق پروردگار میرا قریب ہی دعا قبول کرنے والا اور بخشش مانگو پروردگار لینے سے

ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝ يٰٓيُوسُفُ

پھر پھر آؤ طرف اوسکے تحقیق رب میرا مہربان ہی دوستدار ای یوسف

صراط کو سیدھا اور ڈرنا اور ڈرنا  
ہر چیز کے قادر ہی اور ہر قوم میری بخشش مانگو پروردگار لینے سے  
پھر توبہ کرو طرف اوسکے بھیج دیکھا ابر کو آسمان سے اوپر تمہارے برسے والا  
اور طرف توبہ کے بھائی اوسکے صلح کو کہا ای قوم میری عبادت کرو اللہ کی  
مہین واسطے تمہارے کوئی معبود سوا اوسکے اوسنے پیدا کیا تمکو زمین سے  
اور آباد کیا تمکو بیچ اوسکے پس بخشش مانگو اوس سے پھر پھر آؤ طرف اوسکے  
تحقیق پروردگار میرا قریب ہی دعا قبول کرنے والا اور بخشش مانگو پروردگار لینے سے  
پھر پھر آؤ طرف اوسکے تحقیق رب میرا مہربان ہی دوستدار ای یوسف

عَرْضُ عَنْ هَذَا سَكْرًا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ

متحدہ پھیرنے اس بات سے اور بخشش مانگنا اور عورت واسطے گناہ اپنے کے تحقیق

كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ كَقَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا

تو ہی خطا کاروں سے کہا او غصوں نے او باپ کے بخشش مانگ واسطے ہمارے

ذُنُوبِنَا إِنَّكَ خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُكُمْ

گناہوں کے تحقیق ہم سے خطا کرنے والے کہا البتہ بخشش مانگوں گا میں اسے تمہارا

رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ

رب اپنے سے تحقیق وہ بخشنے والا مہربان ہی اور نہیں منع کیا لوگوں کو اس سے

أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ

کہ ایمان لائیں جب آئی اونسے پاس ہدایت اور بخشش مانگیں رب اپنے سے

لَأَنَّ تَأْتِيهِمْ سِنَةٌ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ

مگر یہ کہ آوے اونسے پاس عادت پہلوں کی یا آوے اونسے پاس عذاب

بِبُلَاهِهِ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا سَائِغُفِرُكَ رَبِّي

سامنے سے کہا سلام ہی اوپر تیرے البتہ بخشش مانگوں گا میں واسطے تیرے رب اپنے سے

إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

تحقیق ہی وہ ساتھ میرے مہربان سوائے اسکے نہیں کہ مسلمان وہ لوگ ہیں کہ ایمان لائے

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أُمَّةٍ لَمْ

ساتھ اللہ کے اور رسول اوسکے کے اور جسوقت کہ ہوں ساتھ پیغمبر کے اوپر کام جمع کرتے ہیں

يَذُوبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ

جاوین یہاں تک کہ اذان لے لیوں پیغمبر سے تحقیق وہ لوگ کہ اذان مانگتے ہیں بخشش سے

وَلِعَلَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا

یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان لائے ہیں ساتھ اللہ کے اور رسول اوسکے کے پس جسوقت

سورۃ النور ص ۱۳۱  
سورۃ النور ص ۱۳۲  
سورۃ النور ص ۱۳۳  
سورۃ النور ص ۱۳۴  
سورۃ النور ص ۱۳۵  
سورۃ النور ص ۱۳۶  
سورۃ النور ص ۱۳۷  
سورۃ النور ص ۱۳۸  
سورۃ النور ص ۱۳۹  
سورۃ النور ص ۱۴۰  
سورۃ النور ص ۱۴۱  
سورۃ النور ص ۱۴۲  
سورۃ النور ص ۱۴۳  
سورۃ النور ص ۱۴۴  
سورۃ النور ص ۱۴۵  
سورۃ النور ص ۱۴۶  
سورۃ النور ص ۱۴۷  
سورۃ النور ص ۱۴۸  
سورۃ النور ص ۱۴۹  
سورۃ النور ص ۱۵۰







هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ فَأَعْلَمُ آتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وہ ہی بخشنے والا مہربان ہے جان تو یہ کہ نہیں کوئی معبود سزا دہندہ

وَاسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور بخشش مانگے واسطے گناہ اپنے کے اور واسطے ایمان والوں کے اور ایمان والیوں کے

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثُوبِكُمْ ۝ تَسْبِقُ لَكَ

اور اللہ جانتا ہے جگہ پھرنے تمہارے کی اور جگہ رہنے تمہاری جگہ کتاب کہنے واسطے تیرے

الْمُحَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا

بچے چھوڑے گئے گنواروں سے مشغول کیا تھا ہمارا مالوں ہمارے نے اور لوگوں ہمارے

فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالسِّنَةِ هُمْ مَالِكٌ فِي

پس بخشش مانگے واسطے ہم سے کہتے ہیں ساتھ زبانوں اپنی کے جو کچھ کہ نہیں ہو سچ

وَتُلَوِّذُ بِهِمْ قُلُوبًا فَمِنْ يَمِينِكَ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ أَنْ

دلوں اونکے کے کہ پس کون مالک ہوگا تمہارا اللہ سے جو کچھ اگر

أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا

ارادہ کوئے ساتھ تمہارے ضرر کا یا ارادہ ساتھ تمہارے نفع کا بلکہ ہی اللہ ساتھ تمہارے

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ

کہ کرتے ہو تم خیر دار تحقیق پر بہیزگار سچ بہشتوں کے اور

عُيُونٍ ۝ اخذِينَ مَا اتَّهَمُوا بِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ

چشموں کے لینے والے اوس چیز کے کہ دی اوں کو پروردگار اونکے تحقیق وہ تھے پہلے

ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا

اس سے نیکی کرتے دن کے لمحے غمگین رات

يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْآيَاتِ هُمْ يَسْتَعْفِفُونَ ۝

سوئے اور وقت صبح کے وہ استغفار کرتے تھے

سورۃ غافر تاویلی کی تفسیر میں ہے کہ یہ سورۃ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی فرمائی ہے کہ اسے پڑھے اور اللہ تعالیٰ اسے بخیر فرمائے اور اسے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے اور اسے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے اور اسے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے

سورۃ الذاریت رکوع چہدہم ۱۱



المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله

مسلمان عورتیں بیعت کرتی ہوئیں جیسے اوپر اس بات کے کہ نہ شریک لادیں ساتھ اللہ کے

شيئا ولا يسرقن ولا يزينين ولا يقتلن

کسی چیز کو اور نہ چوری کریں اور نہ زنا کریں اور نہ مار ڈالیں

اولاد دهنن ولا ياتين بهتان يفتريه

اولاد اپنی کو اور نہ لادیں طوفان کہ باندہ بیعتوں اور نہ

بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك

درمیان ہاتھ اپنے کے اور پاؤں اپنے کے اور نہ نافرمانی کریں تیری

معرض فبايعهن واستغفر لهن الله ان

کسی حکم شرع کے پس بیعت قبول کرادینے اور بخشش مانگنے واسطے ان کے اللہ سے تحقیق

الله غفور رحيم واذا قيل لهم تعالوا

اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آؤ

ليستغفر لكم رسول الله لو واروسهم

بخشش مانگے واسطے تمہارے رسول خدا کا موڑتے ہیں سرہانے کو اور

رايتهم يصدون وهم مستكبرون

دیکھتا ہے تو ان کو کہ باز رہتے ہیں اور وہ کبر کرتے ہیں

سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغف

برابر ہے اوپر ان کے کیا بخشش مانگے تو واسطے اور نہ کہ باندہ بخشش مانگے تو

لهم لئن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي

واسطے ان کے ہرگز نہ بخشنے گا اللہ واسطے ان کے تحقیق اللہ نہیں راہ دکھاتا

القوم الفاسقين فقالت استغفروا ربكم

قوم فاسقوں کو پس کہا میں نے بخشش مانگو رب اپنے سے

سورة الممتحن

سورة نوح

مختصرہ نماز میں درگاہِ جبرائیل

وَمَا كَانَ غَفَّارًا ۝ وَآخِرُونَ يَضُرُّونَ

تحقیق وہ ہر بخشنے والا اور لوگ ہونگے کہ چلیں گے

الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ

زمین کے چاہتے ہونگے فضل خدا کے سے اور لوگ ہونگے

يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ

کہ لڑنے ہونگے سب سے آسان جو آسان ہو

مِنْهُ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ

اوسمیں سے اور قائم رکھو نماز کو اور دو زکوٰۃ اور

أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا

قرض دو اللہ کے لیے قرض اچھا اور جو کچھ آگے بھیجے

لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ جَدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

واسطے جانوں اپنی کے بھلائی سے پاؤ گے اوسکو نزدیک اللہ کے وہ

خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ

بہتر ہے اور بڑا ہے ثواب میں اور بخشش مانگو اللہ سے تحقیق

اللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بخشنے والا مہربان ہے شروع کرنا کہ ہر وہی نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

جسوقت آئی مدد خدا کی اور فتح ہوا کہ اور دیکھے تو لوگوں کو

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ

داخل ہوتے ہیں سب سے اللہ کے فوج فوج پس کی بیان کر

بِحَمْدِكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّكَ تَوَّابٌ

ساتھ تعریف رب اپنے کے اور بخشش مانگ اس سے تحقیق وہ ہی پھر آنے والا

سورۃ النصر میں یہی دعا ہے

وَاخْتَمِلِي بِمَا خَتَمْتَ بِهِ بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اور خاتمہ کر میرا اوستہ کہ خاتمہ کیا تو نے ساتھ اوستے بندوں اپنے نیکوں کا

الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّكَ

وہ لوگ کہ نہیں ہی خوف اور اوستے اور نہ وہ غم کھا دین کے تحقیق تو ہو

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ + وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تعریف کیا گیا بزرگ اور رحمت بھیج اللہ اوپر حضرت محمد کے اور اوپر آل

مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ شَرِّفْنَا بِكِتَابِكَ الْكَرِيمِ

محمد کے اور سلام بھیج ای اللہ میرے مشرف کر ہو کتابت اپنی کتاب بزرگ کے

وَعَزِّزْنَا بِكَلَامِكَ الْقَدِيمِ + ثَبِّتْنَا عَلَى الْمُسْتَقِيمِ

اور عزت دے ہو کتابت اپنے کلام قدیم کے اور ثابت رکھ ہو اوپر راہ سیدمی کے

نَوَّابِنُورِيهِ بِالنَّوِّ وَأَصْلِهِ بِمِثْنِهِ حَالَنَا وَاجْعَلْهُ

روشن کر ساتھ اوستی روشنی کے دل ہمارا اور اچھا کر اوستی برکت کے حال ہمارا اور کر دے اوستی

لَنَا حَافِظًا وَحَارِسًا مِنْ الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ

ہمارے لیے نگہبان اور پاسبان آفتوں اور ختنوں

وَالْبَلِيَّاتِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ + وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اور بلاؤں سے سفر میں اور حضر میں اور رات میں اور دن میں

وَالنَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ وَفِي جَمِيعِ أَحْوَالِنَا وَقَضَاءِ

اور سوتے میں اور جاگتے میں اور سب حالتوں میں ہمارے اور پوری ہونے

حَاجَاتِنَا اللَّهُمَّ اخْتِمْنَا بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَكَيْصَلِ

ہماری حاجتوں میں ای اللہ میرے خاتمہ کر میرا بھلائی اور نیکی پر اور چاہے کہ سعاد

آخِرَ قَوْلِنَا قَوْلَ الشَّهَادَةِ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ +

آخر قول ہمارے کہ قول شہادت سے ای زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے

# التسبيحات في يوم الاحد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَسْبُ نَسِيْدٌ جَمْدُكَ

شروع کرتا ہوں بے نام اللہ بے شکر کرنے والے ہر جان کے اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف تیری کے

وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے کہا تحقیق میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

اور سکھائے آدم کو نام سارے پھر وہ دکھائے فرشتوں کو

فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ لَئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

پس کہا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر ہو ستم سچے

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِالْاَمَّا عَلِمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ

کہا او تمہوں نے پاک ہی تو نہیں علم ہم کو سکھایا تو نے ہم کو تحقیق تو ہی

الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ

جاننے والا حکمت والا اور کہا او تمہوں نے لیکر پی اٹھنے اور لاد پاکی جو اسکو

بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُ قٰنِیْنٌ

بلکہ واسطے اس کے ہی جو کچھ پہنچ آسمانوں اور زمین کے ہے ہر ایک واسطے اس کے فرمانبردار ہی

وَازْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ

اور یاد کر رب اپنے کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقَعُوْا وَّعَلَىٰ جُنُوْبِهِمْ

وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اوپر کروٹوں انہی کے

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا

اور فکر کرنے میں پہنچ پیدا ایسے آسمانوں اور زمین کے ای رب ہمارے

تسبیحات  
سورۃ القدر  
سورۃ الفاتحہ  
سورۃ البقرہ  
سورۃ آل عمران  
سورۃ النور  
سورۃ الاحزاب  
سورۃ الفجر  
سورۃ الشرح  
سورۃ التین  
سورۃ الفلق  
سورۃ النحل  
سورۃ النجم  
سورۃ القدر  
سورۃ الفاتحہ  
سورۃ البقرہ  
سورۃ آل عمران  
سورۃ النور  
سورۃ الاحزاب  
سورۃ الفجر  
سورۃ الشرح  
سورۃ التین  
سورۃ الفلق  
سورۃ النحل  
سورۃ النجم

مَا خَلَقْتُ هَذَا بَاطِلًا يُسَبِّحُكَ فَقِنَا عَمَلَهُ

نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب قائمہ ہاکی ہو تجکو میں سب کے خدا کے

النَّارِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

آگ سے او صاحب کتاب کے مت زیادہ کوئی کرو بیچ دین لینے کے اور

لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى

نہ کہو اور اللہ کے مگر حق سوا اسکے نہیں کہ عیسیٰ

ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةٌ أَقْرَبَ إِلَى مَرْيَمَ

بیٹا مریم کا پیغمبر اللہ کا ہی اور حکم ہو اور سکا دلایا او سکو طرف مریم کے

وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا

اور روح ہو او سکو طرف سے پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور او کے رسول کے اور نہ کہو

ثَلَاثَةً إِنَّهُمْ هُوَ خَيْرٌ الْكُفْرَ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ

خدا تین ہیں بازر ہو بہتر ہو گا واسطے تمہارے سوا اسکے نہیں کہ اللہ معبود اکبار ہے

سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ

یاکی ہو او سکو اس سے کہ ہو واسطے او کے اولاد واسطے او کے ہی جو کچھ آسمان کے

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَإِذْ قَالَ

اور جو کچھ زمین کے ہی اور کفایت ہی اللہ کا راز اور جب کہے گا

اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قُلْتُ لِلنَّاسِ خِزْيًا

اللہ ای عیسیٰ بیٹے مریم کے کہا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ بکڑ و بکڑ

وَأُمِّي الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ

اور مان میری کو دو معبود سواے اللہ کے کہے گا یاکی ہو تجکو نہیں ہی

لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ

واسطے میرے یہ کہ کہوں میں وہ چیز کہ نہیں واسطے میرے حق اگر میں نے کہا ہو گا یہ او کو

سورۃ النساء در روح سوم بیار کشتہ ۱۲

وقف نام سورۃ المائدہ در روح کشتہ بیار کشتہ ۱۲



فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي

پس تحقیق جانتا ہو گا تو اسکو جانتا ہی تو جو کچھ سچ جی میرے کے ہی اور نہیں جانتا میں جو کچھ سچ

نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ

جی میرے کے ہی تحقیق تو ہی جاننے والا غیبوں کا اور مقرر کرتے ہیں واسطے اللہ کے

شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا آلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

شریک جنوں کو اور حالانکہ پیدا کیا ہی اونکو اور باندھ لیے ہیں واسطے اوسکے بیٹے اور بیٹیاں

بِغَيْرِ عِلْمٍ طَبَعَتْهُ وَأَتَعَلَّىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَلَمَّا

بغیر علم کے پاک ہی وہ اور بر تر ہی اوس چیز سے کہ صفت بیان کرتے ہیں اور جب

جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي

آیا موسیٰ واسطے وعدے ہمارے کے اور کلام کیا اوس سے رب اسکے نے کہا ای رب سیر دکھا اور کلمہ

نَظْرًا لَّيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَٰكِنْ نُنْظِرُكَ إِلَى الْجَبَلِ

دیکھوں میں طرف تیرے کہا اللہ نے ہرگز نہ دیکھ سکے گا تو تجھکو ولیکن نظر کر طرف پہاڑ کے

فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا جَلَّىٰ رُبَّمَا

پس اگر قائم رہے جگہ اپنی پر پس البتہ دیکھ سکے گا تو تجھکو پس جب تجلی کی پروردگار اسکے نے

لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمُوا عَلَىٰ صَبْعَاءَ فَلَمَّا أَفَاو

پہاڑ پر کیا اوسکو ریزہ ریزہ اور گر پڑا موسیٰ بیہوشش پس ہوش میں آیا

قَالَ سُبْحٰنَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

کہا ہاکی ہو تجھکو توبہ کی میں نے طرف تیرے اور میں اول ایمان لائے والا ہوں

وَأَذْكُرُكَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ

اور یاد کر ہروردگار اپنے تو سچ جی اپنے کے عاجزی اور ترسے اور کم

الْبُحْبُوحِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن

آواز سے بات سے صبح کو اور شام کو اور مت ہو

سورۃ الاعراف کو بیستم سیارہ نمبر ۱۱ ص ۱۲۰ و ۱۲۱ سورۃ الاعراف کو بیستم سیارہ نمبر ۱۱



مَنْ سَلَطَ مِنْ هَذَا اَطَقُوا لَنْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

کچھ دلیل ساتھ اوسکے کیا کہتے ہو اور پر اللہ کے جو کچھ کہ نہیں جانتے ہو

قُلْ هَذِهِ سَبِيلُ اَدْعُو اِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ

کہہ کہ یہ ہے راہ میری بکارتا ہوں میں طرف اللہ کے اوپر بینائی کے میں اور جسے

اتَّبَعْنِي وَسَبَّحَنَ لِلَّهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

متابعت کی میری اور پاکی بیان کرتا ہوں اسطے اللہ کے اور نہیں میں شرک لائے والوں سے

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ اَبْرَاقَكُمْ فَاطَّعُوا وَبِئْسَ

وہ ہے جو دکھلاتا ہے تمکو بجلی ڈرے اور طمع سے اور پیدا کرتا ہے

السَّكَبَ الثَّقَالَ ۝ وَيَسْبِغُ الرِّعْدُ حُمْرًا وَلِلَّعَاكَةِ

بادل بھاری اور تسبیح کرتا ہے گرجنے والا ساتھ تعریف اوسکی کے اور فرشتے

مِنْ خِيفَتِهِ وَمِنْ سِلِّ الصَّوَاعِقِ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

اوسکے ڈرے اور بھیجتا ہے گرنے والی بجلی پس ہو نچا دیتا ہے اوسکو جسکو

اُنْشَاءُ وَهُمْ يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِقَابِ

پاے اور وہ جھگڑتے ہیں بیچ اللہ کے اور وہ سخت عذاب والا ہے

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝

اور البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم کہ تو تنگ ہو جاتا ہے سینہ تیرا ساتھ اوس چیز کے کہ کہتے ہیں

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ

پس کی بیان کر ساتھ تعریف اپنے کے اور ہو جا سجدہ کرنے والوں سے اور عبادت کر پروردگار اپنے کو

حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہاں تک کہ اوسے تکو موت شروع کرتا ہو میں ساتھ نام اللہ کے والے مہربان کے

اِنِّى اَمُّ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهَا سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا

آیا حکم اللہ کا پس مت جلدی کرو اوسکو پاکی وہ اور برتر ہے اوس چیز سے

سورۃ الاحقاف

سورۃ الاحقاف

سورۃ الاحقاف

سورۃ الاحقاف



مَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ

اور نبی بھیجے تھے مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور قرآن کو جدا جدا کہہ دیتے

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى حَكْمَةٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝

تو کہہ دیتے تو اسکو اوپر لوگوں کے اوپر آہستگی کے اور اتار رہے تھے اسکو اور اتارنا آہستہ آہستہ

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِیْنَ اَوْتُوا الْعِلْمَ

کہ ایمان لاؤ تم ساتھ اس کے یا نہ ایمان لاؤ تحقیق وہ لوگ کہ دیے گئے ہیں علم

مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا بَتَّلْتُمْ عَلَیْهِمْ بَحْرًا مُّجْرًا ۚ لِيَلْذُقُوْا

پہلے اس سے جب پرٹھا جاتا ہی اوپر اوستے گھر پرٹتے زمین ٹھوڑیوں پر

ذُقُوْا الَّذِیْ كَفَرْتُمْ بِاٰیٰتِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ رٰسِخُوْنَ

سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہیں یا کہ ہی رب ہمارا تحقیق ہے وعدہ

رَبِّنَا كَالْمَفْعُوْلٰٓءِ ۚ وَبِحُرُوْبٍ لِّیَلْذُقُوْا ذُقُوْا ذُقُوْا

رب ہمارے کا البتہ کیا گیا اور گھر پرٹتے ہیں اوپر ٹھوڑیوں کے روتے ہوئے اور

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْرِكِ ۚ

زیادہ کرتا ہی او کو جو جزی کرنا پس نکلا اوپر قوم اپنی کے شراب سے

اِنَّ اٰیٰتِ رَبِّکُمْ لَیَسْمَعُوْنَ ۚ اِنَّ رَبَّکُمْ لَیَعْلَمُ

پس اشارت کی طرف اوستے یہ کہ تسبیح کرو صبح اور شام کو نہیں لائق ہی

اِنَّ رَبَّکُمْ لَیَعْلَمُ اِنَّ رَبَّکُمْ لَیَعْلَمُ اِنَّ رَبَّکُمْ لَیَعْلَمُ

واسطے اللہ کے یہ کہ پکڑے اولاد پائی ہو اسکو جب مقرر کرتا ہی کچھ کام پس سواری اسکو

یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ ۚ قَالَ رَبِّ اَشْرِبْنِیْ حَمْلًا

کہ کہتا ہی اسکو ہو پس ہو جاتا ہی کہا اسے رب کھول دے واسطے میرے سینہ میرا

وَلِیْسَ لِیْ اَمْرٌ مِّنْ شَیْءٍ اَوْ اَحْلِلْ عَلَیَّ مِنْ لِّسَانِیْ

اور آسان کرو واسطے میرے کام میرا اور کھول دے گدہ زبان میری سے

مفکر

مصابف از شہدہ شہداء ہجرت ۱۲۰۰ھ لکھنؤ میں لکھی گئی ہے

صدر کتب خانہ

صدر کتب خانہ





۱۲ سورۃ النور ۱۲ سورۃ یازدہم ۱۲ سورۃ کورن ۱۲ سورۃ کورن ۱۲ سورۃ الفلقان ۱۲ سورۃ یس ۱۲ سورۃ یس ۱۲ سورۃ یس ۱۲ سورۃ یس

بَعْضٌ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۚ عِلْمَ الْغَيْبِ

بعضوں کے پاک ہی اللہ اس چیز سے کہ بیان کرتے ہیں جانتے والا غیب اور

الشَّهَادَةِ فَعَلَّ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ وَلَوْ أَرَادَ سَمْعُوهُ

ظاہر کا پس برتر ہی اس چیز سے کہ شریک کرتے ہیں اور کیوں جس وقت منانے اور

قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَكُفِّرَ بِهِ هَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا

کہاتے تھے ہمیں لائق ہی ہمکو کہ بولیں یہ بات پاکی ہو تجھ کو یہ

بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۚ فِي بَيِّنَاتٍ آذِنَّا اللَّهُ أَنْ

بہتان ہی بڑا بیچ ظروں کے کہ حکم کیا اللہ نے یہ کہ

تَرْفَعُ وَيَذْكُرُ فِيهَا أَسْمَاءُ لَيْسَ لَهَا فِيهَا بِالْعُدْوِ

بلند کیا جاوے اور یاد کیا جاوے بیچ اس کے نام اس کے بیچ کرنے میں واسطے اس کے اور میں صبح کو

وَالْإِصْبَالِ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

اور شام کو کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اللہ تسبیح کرتے ہیں واسطے اس کے جو کوئی بیچ آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَالطَّيِّبَاتِ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ

اور زمین کے میں اور جانور بندے پر کھونے ہونے ہر ایک تحقیق جانتا ہر من اس کے

وَتَسْبِيحَهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ قَالُوا

اور تسبیح اس کے اور اللہ جانتا ہی جو کچھ کرتے ہیں کہیں گے

سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغُ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ

پاکی ہو تجھ کو نہیں تھا لائق ہمکو یہ کہ پر میں ہم سوائے تیرے

مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا

کار ساز و لیکن فائدہ دیا تو نے انکو اور باپوں انکو کہ یہاں تک کہ بھول گئے

الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا يَجْرُونَ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

یاد دیتی اور تھی قوم ہلاک ہونے والی اور توکل کر اور اس زندگے کے جو

الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا يَجْرُونَ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

یاد دیتی اور تھی قوم ہلاک ہونے والی اور توکل کر اور اس زندگے کے جو



الْأَيُّمَاتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ كَفَى بِإِيْدِنُ نُورِ عِبَادِهِ

ہمیں مرنا اور پاکی بیان کر ساتھ تعریف اوسکی کے اور کفایت ہی وہ ساتھ گناہوں بندوں اپنے کے

خَيْرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

خبردار جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

درمیان اونکے ہی تیج چھ دن کے پھر قرار پکڑا اوپر عرش کے

الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا فَلَمَّا جَاءَهُ نُورُ دِي

وہ رحمن ہی پس سوال کرو اوسکو خبر داری سے پس جب آیا اوسکی پاس پکارا گیا

ان بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ

یہ کہ برکت دیا گیا ہی جو کچھ تیج آگ کے ہی اور جو کوئی کہ گرداوسکے ہی اور پاکی ہی اللہ

رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

پروردگار عالموں کے کو اور پروردگار تیرا پیدا کرتا ہی جو کچھ کہ چاہتا ہی اور پسند کرتا ہی

مَا كَانَ لَهُمُ الْخَبْرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى عَمَّا

ہمیں ہی واسطے اونکے اختیار پاکی ہی اللہ کو اور برتر ہی اوس تیز سے

يَشْرِكُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ

کہ شریک لانے ہیں پس پاکی ہی اللہ کو جسوقت کہ شام کرتے ہو اور جسوقت

تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْخَبْرُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

کہ سبج کرتے ہو اور واسطے اوسکے سب تعریف تیج آسمانوں کے اور زمین کے اور

عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ وَ يَخِيءُ بِرَأْسِهِ مِنَ الْمَلِئِ

پھر پھر اور جب ظہر کرتے ہونے نکالتا ہی زندے کو مردے سے

وَيَخِيءُ بِرَأْسِهِ مِنَ الْمَلِئِ مِنَ الْأَرْضِ وَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور نکالتا ہی مردے کو زندے سے اور جلاتا ہی زمین کو شیخے موت اوسکی کے

۱۱ سبحان ربك رب العرش العظيم ۱۲ سبحان ربك رب العرش العظيم ۱۳ سبحان ربك رب العرش العظيم ۱۴ سبحان ربك رب العرش العظيم ۱۵ سبحان ربك رب العرش العظيم ۱۶ سبحان ربك رب العرش العظيم ۱۷ سبحان ربك رب العرش العظيم ۱۸ سبحان ربك رب العرش العظيم ۱۹ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۰ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۱ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۲ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۳ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۴ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۵ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۶ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۷ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۸ سبحان ربك رب العرش العظيم ۲۹ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۰ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۱ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۲ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۳ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۴ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۵ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۶ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۷ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۸ سبحان ربك رب العرش العظيم ۳۹ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۰ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۱ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۲ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۳ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۴ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۵ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۶ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۷ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۸ سبحان ربك رب العرش العظيم ۴۹ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۰ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۱ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۲ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۳ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۴ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۵ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۶ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۷ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۸ سبحان ربك رب العرش العظيم ۵۹ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۰ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۱ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۲ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۳ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۴ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۵ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۶ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۷ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۸ سبحان ربك رب العرش العظيم ۶۹ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۰ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۱ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۲ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۳ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۴ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۵ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۶ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۷ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۸ سبحان ربك رب العرش العظيم ۷۹ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۰ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۱ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۲ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۳ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۴ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۵ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۶ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۷ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۸ سبحان ربك رب العرش العظيم ۸۹ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۰ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۱ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۲ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۳ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۴ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۵ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۶ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۷ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۸ سبحان ربك رب العرش العظيم ۹۹ سبحان ربك رب العرش العظيم ۱۰۰ سبحان ربك رب العرش العظيم





مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَمَا قَدَرُوا

جو کچھ کہا جاتا ہے پاک خود مدبر مگر اکیلا غالب اور نہ قدر چھانی

اللَّهُ حَقُّ قَدِيرُهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللہ کی حق قدر اور اس کے کا اور زمین ساری قبضے میں آواؤں کے دن قیامت کے

وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا

اور آسمان بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دائیں ہاتھ اور اس کے پاک خود اور برتر ہوا اس چیز سے

يُشْرِكُونَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ

کہ شریک رائے ہیں اور ان کے گانوں فرشتوں کو گھیرے ہوئے گرد

الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ

عرش کے پالی بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف پروردگار اپنے کے اور فیصل کیا جاتا ہے درمیان ان کے

بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِينَ

ساتھ حق کے اور کہا گیا سب تعریف واسطے اللہ کے پروردگار عالموں کا وہ لوگ جو

يَحْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

اور ان سے ہیں عرش کو اور جو کوئی کہہ کر اور اس کے ہیں پالی بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف پروردگار

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور ایمان لاتے ہیں ساتھ اور اس کے اور بخشش مانگتے ہیں واسطے ان کو ان لوگوں کے کہ ایمان لاتے

وَمَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ

اور وہ بھر جائے سب لیا تو نے ہر چیز کو رحمت کر اور علم کر پس بخش کر

لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقَدْ عَذَّبْنَا الْحَبِيبِ

وہ جو ایمان لائے کہ تو یہ کی اور پیروی کی راہ تیری کی اور جو ان کو عذاب دوزخ کے سے

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَنْبَغِي

پس صبر کر تحقیق وعدہ اللہ کا سچ ہے اور بخشش مانگ واسطے گناہ مانگنے کے

روایت ہمدانی سے اس حدیث سے

روایت بخاری سے

تورق المومنین کی بخشش

روایت بخاری سے

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِنَّمَا

اور پاکی بیان کر ساتھ تعریف رب لینے کے تیسرے پہر اور سبوح اور

يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ

چوک سے بچو شیطان کی طرف سے کوئی چکانے والا پس پناہ پکڑ ساتھ اللہ سے تحقیق

هُوَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

وہ سنتے والا جانتے والا اور نشانیاں اوسکی سے رات ہر اور دن

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَسْجُدَانِ لِلشَّمْسِ وَاللْقَمَرِ

اور سورج اور چاند مت سجدہ کرو واسطے سورج کے اور نہ واسطے چاند کے

وَإِسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رَايَا

اور سجدہ کرو تم واسطے اللہ کے جس نے پیدا کیا ہر اونکو اگر ہو تم اوسی کو

تَعْبُدُونَ ۚ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ

عبادت کرتے پس اگر تکبر کریں پس جو کوئی کہ نزدیک ہو دور گاہ کرتے

يَسْجُدُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمُونَ ۚ

سبوح کرنے میں واسطے اوسکے رات اور دن اور وہ نہیں سکتے

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتْفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ

نزدیک ہر کہ آسمان پھٹ جاویں اوپر اپنے سے اور فرشتے

يَسْجُدُونَ بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ

پاکی بیان کرتے میں ساتھ تعریف پروردگار اپنے کے اور بخشش مانگتے میں واسطے اون لوگوں کے کہ سبوح ہیں

إِلَّا أَنْ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ وَالَّذِي خَلَقَ

خبردار ہو تحقیق اللہ وہ ہر بخشنے والا مہربان اور جس نے پیدا کیں

الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ الْآنِعَامِ

ساری اور کیا واسطے تمہارے کشتیوں اور چارپایوں سے

السَّمِينِ

سبوح بحمد ربك بالاشراق والبرق

اور سجدہ کرو للہ الذی خلقہن ان کنتم رایا تعبدون

سبوح بحمد ربکم و یستغفرون لِمَنْ فی الارض

سبوح بحمد ربکم و یستغفرون لِمَنْ فی الارض

مَا تَرْكَبُونَ ۝ لَيْسْتُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ تَحْتَمِلُونَ كَرْوًا

وہ پہن کر سوار ہوتے ہو تم تو کہ چڑھو تم اوپر پیٹھوں اونہی کے پھر یاد کرو تم

نِعْمَةٌ رَأَيْتُمْ إِذَاسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا بِنِعْمِ

نعمت پروردگار ایسے ہی کہ جس وقت کہ سوار ہو تم اوپر اوسکے اور کہو تم پاک پرورد

الذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ وَإِنَّا

جس نے سخر کیا واسطے ہمارے اگو اور نہ تھے ہم اوسکی طاقت پاسنے واسے

إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ

طرف رب اپنے کے البتہ پھر جانے والے ہیں پاک پروردگار آسمانوں کے کو اور

الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ إِنَّا أَرَّسْنَاكَ

زمین کے کو پروردگار عرش کے کو اوس چیز سے کہ بیان کرنے میں تحقیق بھیجے مجھ کو

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لَتَقُولُنَّ يَا لَئِيْلَآءِ

کو اہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تو کہ ایمان لاؤ تم ساتھ ایشکے اور

رَسُولِهِ وَتَعْرَبُونَ ۝ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ

رسول اوسکے کے اور قوت دیا اوسکو اور تعظیم کرو اوسکی اور تسبیح کرو اوسکی

وَأَصْبِلَآءَ ۝ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

اور شام پس صبر کرو اور اوس چیز کے کہ کہتے ہیں اور تسبیح کر ساتھ لعین

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ وَمِن

رب اپنے کے پہلے نکلنے سورج کے اور پہلے ڈوبے سورج کے اور

الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ ۝ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝ أَمْلَهُمُ الْغَيْبِ

راستہ میں تسبیح کرو اوسکے یعنی بعد نماز مغرب اور صبح سجدے کے کیا واسطے اونکے محبوبین سوا

اللَّهِ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

اللہ کے پاکہ تر القداوتر چیز سے کہ شریک لائے ہیں اور صبر کرو واسطے حکم پروردگار اپنے کے

بیکر زشت شہور و ہر روز روزانہ شہور

تسبیح اللہ کے روزانہ ہر روز ہر وقت ہر جگہ ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ

فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ حِينَ تَقُومُ

پس تحقیق تو ساتھ آنکھوں ہماری کے جو اور پاکی بیان کے ساتھ تعریف اپنے کے جسوقت کھڑا ہوتو

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ النُّجُومِ

اور رات کو پس تسبیح کیا کر اور ستاروں کے بتانے کے

تَذِكْرَةَ وَمَتَاعًا لِلْمُنْتَوِينَ

تذکرت اور فائدہ واسطے مسافروں کے

فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ الْعَظِيمِ

پس پاکی بیان کے ساتھ تعریف پروردگار اپنے بڑے کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

آسمانوں اور زمین کے بڑے اور وہ غالب حکمت والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور جو کچھ زمین کے بڑے اور وہ غالب حکمت والا وہی اللہ جو

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ الشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

نہیں کوئی معبود مگر وہ جاننے والا پوشیدہ کا اور حاضر کا وہی بخشش کرنے والا مہربان

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

وہی اللہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ بادشاہ پاک سلامت عیب سے

الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ

امن دینے والا تمہارا غالب زبردست تکبر والا

بِحَمْدِكَ الْعَظِيمِ

پاکی کے ساتھ تعریف پروردگار اپنے بڑے کے

مستحقا واقفہ کرم با نوزہم

مستحقا حاکمہ سرور عہدہ ہم

مشکوٰۃ غششہم

لِيُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ

کہ جو شریک لاتے ہیں وہ ہے اللہ پیدا کرنے والا درست کرنے والا صورتیں بنانے والا اور اسے اس کے نام ہیں

الْحَسْبُ لِيَسْبِيَهُمْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

اوستے پاکی ہیں کرتے ہیں واسطے اس کے جو کہ بیخ آسمانوں اور جو کچھ زمین کے پروردگار غالب

الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

حکمت والا ہے شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والا مہربان کے پاکی بیان کرتے ہیں واسطے اللہ کے جو کہ بیخ آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِيَسْبِيَهُمْ

زمین کے پروردگار غالب حکمت والا شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والا مہربان کے پاکی بیان کرتے ہیں

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَمَّا أَفْلَحَ قَدْ سِيسَ الْعَزِيزُ

واسطے خدا کے جو کہ بیخ آسمانوں کے پروردگار جو کہ بیخ زمین کے ہر بادشاہ ہر بہت پاک غالب

الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

حکمت والا شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والا مہربان کے پاکی بیان کرتے ہیں واسطے اللہ کے جو کہ بیخ آسمانوں

وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ لَهُ السَّمْعُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور جو کچھ زمین کے پروردگار اسی کے ہر بادشاہی اور واسطے اسی کے سب نعمتوں کا اور ہر چیز کے قادر ہے

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْمَعُونَ قَالُوا سُبْحَانَ

کہا بیخ والے اونکے نے کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کیوں نہیں سبوح کہتے خدا کو کہا اور سونے نے پاکی ہے

رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ

پروردگار ہمارے کو تحقیق ہے ہم ظالم اور تحقیق یہ بچتا ہے اور کافروں کے اور تحقیق

حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ

البتہ یقین ہے پس پاکی بیان کر ساتھ نام پروردگار اپنے تم کے اور یاد کر نام

رَبِّكَ بَكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ الْبَيْتِ فَأَجْرٌ لَهُ وَسَيَعْلَى كَلِمَاتِ

پروردگار اپنے کا صبح اور شام اور رات سے ہیں سجدہ کرنے واسطے اس کے اور بیخ کر اس کو

سبحان قاطب صفحہ صدر کو رقم ۱۲

سبحان قاطب صفحہ صدر کو رقم ۱۲

سبحان قاطب صفحہ صدر کو رقم ۱۲

سبحان قاطب صفحہ صدر کو رقم ۱۲

سبحان قاطب صفحہ صدر کو رقم ۱۲

سبحان قاطب صفحہ صدر کو رقم ۱۲



طَوِيلًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ يَا أَعْلَى

بڑی تک شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشے والے مہربان کے پاکی بیان کر ساتھ تعریف پر اور گارن

الَّذِي خَلَقَ فَسَوْفَ وَالَّذِي يُولَدُ فَهُدًى وَالَّذِي يَخْرُجُ

جس نے پیدا کیا پھر درست کیا اور جس نے اندازہ کیا پس راہ دکھائی اور جس نے نکالا

الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَ عُنَاءً أَحْسَنَ سَنَقِرُكَ فَلَئِنَّ أَهْلَ

چارا پس کر دیا اوسکو کوڑا کالا شباب پڑھارن گے ہم تجکو پیش بھولے گا تو گھر

مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ وَيَسِّرُ لَكَ الْيُسْرَىٰ

جو چاہے اللہ تحقیق وہ جانتا ہے جو پکارے ہو اور چھپاتے ہو اور آسان کرنا تم کو سہلے شریعت

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سِيدًا مِّنْ حَيْثَىٰ وَيَجْنِبُهَا

پس نصیحت کر کہ نفع دے نصیحت تیری البتہ نصیحت کہہ دے گا جو شخص کہ ڈرتا ہو اور ایک طرف سے ہیگا اوس

الْأَشَقَىٰ الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكَبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا

بڑا بد بخت جو جس ہو گا آگ بڑی میں پھر نہ مرے گا بیچ اوسکے

وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

اور نہ بیچے گا تحقیق ہا مراد ہوا وہ شخص جو پاک ہوا اور یاد کیا نام پروردگار اپنے کا پس نماز پڑھی

بَلْ تَوَثَّرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ حِينَ قَامَتْ

بلکہ سخت ہا کرتے ہو تم زندگانی دنیا کو اور آخرت بہت بہتر ہو اور بہت باقی رہنے والی

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

تحقیق یہ البتہ بیچے صحیفوں پہلون کے ہم صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشے والے مہربان کے جسوقت آئی مدد خدا کی اور فتح ہوا کہ

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

اور دیکھے تو لوگون کو داخل ہوتے ہیں دین اللہ کے فوج فوج

طویلے کا علی فاطمہ کو مع دو اور دم سیارہ سی ۱۳

تسبیح کا مضمون کو مع ۱۳

قَسْبٌ بِكَ يَا رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُكَ طَائِفَةٌ كَانَتْ تَقَابُلًا وَ

پس پاکی بیان کر ساتھ تعریف پر اور گالیب کے اور شمشک لکھتے ہیں وہ پھر پھر آئے والا اور

اخْتَارُوا مَا خَلَقْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا

خاتمہ کر سیرا او سپر کہ خاتمہ کیا تو نے ساتھ اس کے بندوں اپنے نیکوں کا وہ لوگ کہ نہیں

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

خوف ہر اور اس کے اور نہ وہ غمگین ہیں تحقیق تو تعریف کیا گیا ہو بزرگ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ شَرِّفْنَا

اور رحمت بھیجے اللہ اوپر حضرت محمد کے اور آل پر حضرت محمد کے اور سلام اللہ شریف کرنا

بِكِتَابِكَ الْكَرِيمِ وَعَزِّزْنَا بِكَلِمَاتِكَ الْقَدِيمِ ثَبَتْنَا

ساتھ کتاب اپنی بزرگ کے اور معزز کر تو ہو جو ساتھ کلام اپنے قدیم کے ثابت رکھ تو ہو

عَلَى الْمُسْتَقِيمِ وَنَوِّرْ بِنُورِهِ بَالِنَّا وَأَصْلِبْ بِيَمِينِهِ

اوپر طریق مستقیم کے اور روشن کر تو ساتھ روشنی او سکی کے دل ہمارا اور درست کر تو ساتھ

حَالِنَا وَاجْعَلْ لَنَا حَافِظًا وَحَارِسًا مِنَ الْآفَاتِ

حال ہمارا اور کر تو او سکو واسطے ہمارے حفاظت کرنے والا اور نگہبان آفتوں

وَالْعَاهَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاللَّيْلِ

اور فتنوں اور بلاؤں سے سفر میں اور حضر میں اور رات میں

وَالنَّهَارِ وَالنُّوْمِ وَالْيَقَظَةِ وَفِي جَمِيعِ أَحْوَالِنَا وَ

اور دن میں اور سوتے میں اور جاگتے میں اور سب حالوں میں ہمارے

قَضَاءِ حَاجَاتِنَا اللَّهُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ

اور پوری ہونے حاجتوں ہماری میں اور اللہ خاتمہ کر تو ہمارا ساتھ خیر اور نیکبختی کے

وَلْيَصِلْ آخِرُ قَوْلِنَا قَوْلَ الشَّهَادَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور چاہیے کہ ملا دے آخر قول ہمارے کو قول شہادت سے اور زیادہ رحیم کرنے والوں میں

# التوکل فی یوم الاثنین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِذْ هَمَّتْ طَّائِفٰتِنِ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے جب قصد کیا تھا دو فریقے نے

مِنْكُمْ اَنْ تَفْسَلَا ۗ وَاللّٰهُ وَّلِيُّهَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ

تم میں سے یہ کہ نامردی کریں اور اللہ دوستدار تھا اور اسی کے

فَلِیْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ فِی مَا رَحِمَ اللّٰهُ لَیْسَ

پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے پس ساتھ رحمت اللہ کے نرم ہوا تو

لَهُمْ وَاوَكَّلْتَ فَمَا غَلِیْظَ الْقَلْبِ لَا تُفْضَوْنَ مِنْ حَوْلِكَ

واسطوں کے اور مگر ہوتا تو سخت خوش سخت دل یعنی بے رحم البتہ بجاگ جاتے گرد تیرے سے

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ فَاِذَا

پس معاف کر اونے اور بخشش مانگ واسطے اونکے اور مصلحت کراونے شیخ کام کے پس جیب

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ ۝

تصد کرے تو پس اعتماد کر اوپر اللہ کے تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو

اِنَّ یَنْصُرْكُمْ اللّٰهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَاِنْ یَخْذَلْكُمْ فَمَنْ

اگر مدد کرے تمہاری اللہ پس جہین غالب آنے والا واسطے تمہارے اور اگر چھوڑے تمکو پس کون ہرگز

ذَ الَّذِیْ یَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِیْ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلِیَتَوَكَّلِ

مدد کرے تمہاری پیچھے اسکے اور اوپر اللہ کے پس توکل کریں

الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِیْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ

ایمان والے وہ لوگ کہ کہا اونکو لوگوں نے تحقیق آدمی

قَدْ جَعَلُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمْ اِیْمَانًا ۗ وَتَالُوْا

محقق سمجھ ہوئے ہیں واسطے تمہارے پس زیادہ کیا اونکو ایمان اور کہا اونہوں نے

شیخنا العمران در کتب معجم سیارۃ پیام ۱۲۳۲ مکتوب غیبت ۱۱

المتوکلون

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّن

کفایت ہو ہوگا اللہ اور اچھا کارساز ہو پس پھر آئے ساتھ نعمت کے

اللَّهُ وَفَضِلْ لِمِيسِرِهِمْ سُوءٌ وَأَتَّبِعُوا رِضْوَانَهُ

اللہ کی طرف سے اور فضل کے لگے اوکو برائی اور پیروی کی رضامندی

اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ

اللہ کی اور اللہ صاحب فضل بڑے کا ہے جو کوئی کہائے رسول کا

فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

پس تحقیق کہانا اللہ کا اور جو کوئی پھر جاوے پس نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو اور ہر اونکے

حَفِظًا ۝ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأُوا مِنَ

نگہبان اور کہتے ہیں کام ہمارا فرمانبرداری ہو پس جب باہر نکلتے ہیں

عِنْدِكَ بَيْتٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۝ وَ

تیرے پاس سے مصلحت کرتے ہیں ایک جماعت اونہیں سے سوا اوس چیز کے کہ کہتا ہے تو اور

اللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

اللہ لکھتا ہے جو مصلحت کرتے ہیں پس منہ پھیر لے اونہیں اور بھروسہ کر

عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ هَٰذَا نَتَمَنَّاهُ

اور اللہ کے اور کفایت ہو اللہ کام بنانے والا ان ہم دو لوگ جو

جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ فَمَنْ يُجَادِلِ

کہ جھگڑتے ہو اولی طرف سے بیچ زندگانہ دنیا کے پس کون جھگڑے گا

اللَّهُ عَنْهُمْ حَرْيِقًا مِّمَّنْ الْقِيَامَةِ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۚ

اللہ سے اولی طرف سے دن قیامت کے یا کون شخص ہوگا اور اونکے کارساز

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ

اور واسطے اللہ ہی کے ہر جو کچھ بیچ آسمانوں اور جو کچھ بیچ زمین کے ہر اور کفایت ہو اللہ کام بنانے

صیبات مورد نوشتہ شود ۱۱  
سورة التوکل ۱۲

مترجم سید محمد

مترجم سید محمد

يَا مَهْلِكِي لَكِنِّي لَا تَغْلِبُونِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا

اور صاحب کتاب کے مت زیادہ کوئی گروہج دین یعنی کے اور نہ کہہ

عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

اور اللہ کے مگر سچ سوا کے اسے نہیں کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے

رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُنزِلَتْ إِلَى مَرْيَمَ وَنُوحٍ مِنْهُ

پیغمبر اللہ کا اور حکم ہی اوسکا ان دیا اوسکو طرف مریم کے اور نوح پر اوسکی طرف سے

فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنْ هُوَ

پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور رسول اوسکے کے اور مت کہو خدا تین ہیں یا زبیر

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ

بہتر ہوگا واسطے تمہارے رسول اسے تین کہ اللہ موجود ایک ہی ہے یا کسی اور کو اس سے کہ ہو

لَهُ وَلَدٌ مَلَأَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَفَى بِاللَّهِ

واسطے اوسکے اولاد واسطے اوسکے ہی جو کچھ سب آسمانوں کے اور جو کچھ زمین کے جو اور کفایت ہے اللہ

وَكَيْلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

کارساز اور لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو نعمت اللہ کی

عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

اور اپنے جس وقت قصد کیا ایک جماعت نے یہ کہ دراز کریں طرف تمہارے ہاتھ اپنے کو

فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَكَلَ اللَّهُ

پس بند کے ہاتھ اونکے تم سے اور مردو اللہ سے اور اوپر اللہ کے

فَلْيَتَّقِ كُلَّ الْمَوْعُظِينَ قَالَتْ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ

پس چلیو کہ توکل کریں ایمان والے کہا دو مردوں نے اون لوگوں سے

خَافُوا أَنْ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ

کہ ڈرتے تھے انعام کیا تھا اللہ نے اوپر اونکے داخل ہو تم اوپر اونکے دروازے میں

فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَكَلَ اللَّهُ

پس بند کے ہاتھ اونکے تم سے اور مردو اللہ سے اور اوپر اللہ کے

فَلْيَتَّقِ كُلَّ الْمَوْعُظِينَ قَالَتْ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ

پس چلیو کہ توکل کریں ایمان والے کہا دو مردوں نے اون لوگوں سے

خَافُوا أَنْ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ

کہ ڈرتے تھے انعام کیا تھا اللہ نے اوپر اونکے داخل ہو تم اوپر اونکے دروازے میں

عاشور کو یوم اسپیاریہ کہتے ہیں

وقف لاف

یوم عاشور کو یوم اسپیاریہ کہتے ہیں

یوم عاشور کو یوم اسپیاریہ کہتے ہیں

فَاِذَا دَخَلْتُمْ مَوْتَ فَاِنَّكُمْ عَلَيُّوْنَ ۝ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا

پس جب داخل ہو گئے تم او میں پس تحقیق تم غالب ہو اور او پر اللہ کے پس توکل کو تم

اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ذَلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ اِلَّا

اگر ہو تم ایمان والے یہی ہے اللہ پروردگار تمہارا نہیں کوئی معبود

هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وہی پیدا کرنے والا ہر چیز کا پس عبادت کرو اوسکی اور وہ اوپر ہر چیز کے

وَكَيْلٌ ۝ قَدْ افترينا على الله كذبا ان عدناك في

کار ساز سے تحقیق باندھ دیا ہے اور اللہ کے جھوٹ اگر پھر آدمین ہم سچ

مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اٰذِنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ لَنَا

دین تمہارے کے نتیجے اسکے کہ نجات دی ہمکو اللہ نے اوس سے اور نہیں لائق ہمکو یہ

اَنْ نُّعُوْذَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا

کہ پھر آدمین سچ اوسکے مگر یہ کہ چاہے اللہ پروردگار ہمارا سمایا ہے پروردگار ہمارے

كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۝ رَبَّنَا افْتِنَا

ہر چیز کو علم میں اوپر اللہ کے توکل کیا ہے اسی پروردگار ہمارے حکم کو دیکھنا

بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ۝ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ۝

اور درمیان قوم ہماری کے ساتھ حق کے اور بہتر حکم کرنے والا ہے

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

سوائے اسکے نہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب یاد کیا جاوے اللہ تو جاتے ہیں دل اونکے

وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ۝ وَعَلَىٰ

اور جب پڑی جاتی ان اوپر اونکے نشانیوں کی زیادہ کرتی ہیں اور ایمان اور اوپر

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ

پروردگار انکے توکل کرتے ہیں وہ لوگ قائم رکھتے ہیں نماز کو

سورۃ الاحقاف کورت نوریم شہیارہ نمبر ۱۲

سورۃ الاحقاف کورت نوریم شہیارہ نمبر ۱۲

سورۃ الاحقاف کورت نوریم شہیارہ نمبر ۱۲



مذکورہ عبارتوں میں

غُمَّةٌ ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا يُنظَرُونَ وَقَالَ مُوسَى

پہنچا ہوا پھر تمام گڑبگڑ اوس کام کو طرف سے اور توجہ سے دوپہر اور کہا سوئے گئے

يَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ إِلَّا جُفَاءً فَمَا كُنْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ

اس قوم میری اگر جو تم ایمان لانے ساتھ اللہ کے پس اور اوس کے توکل کرو تم اگر

كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا

جو تم فرما ہر دار پس کہا اوسوں نے اور اللہ کے توکل کیا یعنی اور رب ہمارے

لَا جُنَاكَ فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ

مست کر ہم کو فتنہ واسطے قوم ظالموں کے اور نجات دے ہم کو ساتھ رحمت تیری

مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَمَعَكَ تَارِكًا بَعْضُ مَا

قوم کافروں سے پس شاید کہ تو چھوڑ دینے والا ہے بعضی وہ چیز

يُؤْتِيكَ إِلَيْكَ وَصَّاؤُكَ بِصَدِّكَ أَنْ يَقُولُوا

کہوئی کہانی جو طوت تیرے اور تنگ ہو جائے ساتھ اوس کے پس نہ تیرا اس واسطے کہ کہیں وہ

لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ كِتَابًا مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْزَلْنَا

کیون نہ اتارا گیا اور اوس کے خزانہ یا کیون نہ آیا ساتھ اوس کے فرشتہ سوا اس کے نہیں کہ تو

نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ إِنِّي تَوَكَّلْتُ

نورانی والا جو اور اللہ اور ہر چیز کے کارساز ہے تحقیق میں نے توکل کیا

عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ

اور اللہ ہر دروگالینے اور ہر دروگال تمام کے نہیں کوئی چھلنے والا مگر وہ پھر رہا ہے

بِنَاصِيَتِهِ وَإِنْ رَأَيْتُمْ عَلَيَّ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَا

پیشانی اوسکی تحقیق ہر دروگال میرا اور راہ سیدھا کے ہے اور میں

تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے اور اسی کے توکل کیا میں چھوڑ دینے والا ہوں

مذکورہ عبارتوں میں

مذکورہ عبارتوں میں

مذکورہ عبارتوں میں





مِثْلَكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنِ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

مانند تمہارے ولیکن اللہ احسان کرتا ہے اور وہ جسے چاہے بندوں میں سے

وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

اور ہمیں ہم واسطے ہمارے یہ کہنے آؤں تمہارے پاس نہیں مگر ساتھ اذن اللہ کے اور

عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نَتَوَكَّلُ

اور ہمیں اللہ کے پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے اور کیا ہے واسطے ہمارے کہ نہ توکل کریں

عَلَىٰ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا

اور اللہ کے اور تحقیق دکھلائیں اوستے ہم کو راہیں ہدایتی اور البتہ صبر کریں گے ہم اور اوستے کہ

أَذِیْمُونَ نَاطِقُونَ ۚ عَلٰی اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَّقُونَ ۝

ایذا دینے ہو تم ہم کو اور اور اللہ ہی کے پس چاہے کہ توکل کریں توکل کرنے والے

لَا تَمَاقُونَ لَنَا الشَّيْءَ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ

سوائے اسکے نہیں کہ کتنا ہمارا واسطے کسی چیز کے جب ارادہ کرتے ہیں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اوستے ہو

فَيَكُونُ ۚ وَالَّذِينَ هَجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا

پس ہوجاتا ہے اور جن لوگوں نے کہ دھرم چھوڑا بیچ راہ خدا کے پیچھے اسکے کہ ظلم کیے گئے

لَنَنْقُصَنَّ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جِزَا لْآخِرَةِ

البتہ جگہ دینے گے ہم ان کو بیچ دنیا کے اچھی اور البتہ ثواب آخرت کا

أَكْبَرُ مَرَلَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ وَالَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ

بڑا ہے کاشکے جانتے ہوتے جن لوگوں نے صبر کیا اور اور

رَبِّهِمْ يَتَّقُوا ۚ لَوْ كُنُوا لَيَسَّ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَىٰ

رب اپنے کے توکل کرتے ہیں تحقیق وہ نہیں واسطے اوستے غلبہ اوستا اور

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ

اون لوگوں کے کہ ایمان لائے اور اور پیر درد گار اپنے کے توکل کرتے ہیں تحقیق

میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں اور ان کے معنی اور تفسیر بھی لکھی ہیں۔



بِاللّٰهِ وَكَيْلًا ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

اللہ کام بنانے والا اور اگر پوچھتے تو کہتے کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو

وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۝ قُلْ اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ

اور زمین کو البتہ کہیں گے کہ اللہ نے کہ کیا پس دیکھتے ہو تم اس چیز کو کہ پکارتے ہو

دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِي اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ

سوگ خدا اگر ارادہ کرے مجھ کو اللہ ساتھ برائی کے کیا وہ کھولنے والے ہیں

ضُرِّيْ ۝ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ

ضرر ہو سکے کے یا ارادہ کرے مجھ کو ساتھ مہربانی کے کہ ہیں وہ بند کرنے والے مہربانی آؤسکی

قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ اللّٰهُ خَالِقُ

کہ کافی ہے اللہ اور اس کے توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے اللہ پیدا کرنے والا

كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ

چیز کا اور وہ ہر چیز کے کارساز ہے اور جو کچھ اختلاف کرو تم

فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَاَكْمَلْتُمْ اِلَيْهِ ذٰلِكُمْ ۝ اللّٰهُ رَبُّكُمْ عَلَيْهِ

بہج اوسیکے کسی چیز سے پس تم اس کا طرفت خدا کی ہے اللہ ہے اور پیر اور پیر اوسکی

تَوَكَّلْتُمْ ۝ وَالِيْهِ اَنْتُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْتَدِلِيْنَ ۝

توکل کیا میں نے اور طرفت اوسکے رجوع کرتا ہوں پس جو کچھ منے گئے ہو تم کسی چیز سے پس قائم ہو

حَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ ۝ وَالَّذِيْنَ

زندگانی دنیا کا اور جو کچھ نزدیک اللہ کے ہے بہتر ہے اور بہت باقی ہے اور اس کے اور

اٰمَنُوْا وَعَلَىٰ رَبِّكُمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا الْجَحٰدُ مِنَ

کہ ایمان لائے اور اور پروردگار اپنے کے توکل کرتے ہیں سوائے اسکے نہیں کہ مصلحت کرنا

الشَّيْطٰنِ لِيَحْزَنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَاعِ

شیطان سے توکل کریں کرے اونکو جو ایمان لائے اور نہیں ضرر کرنے والا اونکو

توکل کرنے کو اول سیوا بہت ہے

توکل کرنے کو اول سیوا بہت ہے

توکل کرنے کو اول سیوا بہت ہے



الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وہ لوگ کہ نہیں خوف ہے اور اویں کے اور نہ وہ غمگین ہیں

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

تحقیق تو تعریف کیا گیا ہے بزرگ اور بھیجے اللہ اور محمد کے اور

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ شَرِّفْنَا

اور آل محمد کے اور برکت اور سلام بھیجے اللہ میرے مشرت کرتو ہمکو

بِكِتَابِكَ الْكَرِيمِ وَعَزِّزْ نَايِكَ الْقَدِيمِ

ساتھ کتاب اپنی بزرگ کے اور معزز کرتو ہمکو ساتھ کلام اللہ قدیم کے

ثَبَّتْنَا عَلَى قُرْبِ الْمُسْتَقِيمِ نُورِ نَبِيِّهِ بِالنَّارِ

ثابت رکھتو ہمکو اوپر طریق سیدھے کے روشن کرتو ساتھ روشنی اوسکی کے آل ہمارے

وَأَصْلِهِ بِمِثْلِهِ حَالَنَا وَاجْعَلْهُ لَنَا حَافِظًا وَ

اور درست کرتو اوسکی برکت سے حال ہمارا اور کرتو اوسکو ہمارے لیے حفاظت کرنے والا اور

حَارِسًا مِّنْ أَلْفَاتِ الْعَاهَاتِ الْبَلِيَّاتِ فِي

نگہبان آفتوں اور فتنوں اور بلاوں سے

السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنُّوْمِ وَالْيَقَظَةِ

سفر میں اور حضر میں اور رات میں اور دن میں اور سوتے میں اور جاگتے میں

وَفِي جَمِيعِ أَحْوَالِنَا وَقَضَاءِ حَاجَاتِنَا اللَّهُمَّ

اور بیچ سب حالوں ہمارے میں اور پوری ہونے حاجتوں ہماری میں اور اللہ

اخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَلِيَصِلْ آخِرُ

خاتمہ کرتو ہمارا ساتھ خیر اور نیکبختی کے اور جاپے کہے آخر

قَوْلِنَا قَوْلَ الشَّهَادَةِ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ

قول ہمارے کو قول شہادت اور زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے

# التسليمات في يوم الثلاثاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ يَا مَنْ سَلَّمَ وَجْهَهُ

شروع کرتا ہوں نام اللہ بخشنے والے مہربان کے بلکہ خاص کر سوسپل سے منہ اپنا

لِلَّهِ وَهُوَ حَسِينٌ فَلَهُ أَجْرَةٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ

واسطے اللہ کے اور وہ جو نیکی کرنے والا ہے اسطے اس کے ثواب سزاویٰ نزدیک پروردگار اس کے کادوسین خوف

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسَلِمٌ

اوپر اون کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے جب کہا اسے کہ اس کے نے مطلع ہوا

قَالَ أَسَلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ

کہا مطلع ہوا میں واسطے پروردگار عالموں کے تحقیق دین نزدیک

اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا خُتِفَ الدِّينَ أَوْ تَوَالِ كِتَابِ

اللہ کے اسلام ہے اور نہیں اختلاف کیا اور لوگوں نے کہ دیے گئے کتاب

الْأَمِنَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِنَبِيِّنَهُمْ وَ

مگر پہنچے اس کے کہ آیا اس کے پاس علم سرکش سے درمیان اون کے اور

مَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

جو کوئی کفر کرے ساتھ نشانیوں اللہ کے پس تحقیق اللہ جلد لینے والا ہے حساب کا

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلِمْتُ لِلَّهِ وَمَنْ يَتَّبِعْ

میں کہ جو لوگوں نے جسے میں کہ مطلع کیا میں نے منہ اپنا واسطے اللہ کے اور جس نے ہر وہی کی یہی

وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ

اور کہ واسطے اون لوگوں کے کہ دیے گئے کتاب امدان پر ہوں کہ اس میں بھی مطلع کیا میں اگر مطلع کریں

فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ

پس تحقیق راہ پائی اور اگر پھر جاویں میں سوسپل سے منہ اپنا اور اللہ ہی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع فال عملات ذکر ع و م بسیار سورہ ۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُصْبِحُ بِالْعِبَادَةِ أَغْيَرُ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسَا

لیکن والا ساتھ بندوں کے پس کیا غیر دین خدا کے چاہتے ہیں اور واسطے اور واسطے

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ

جو کچھ بیچ آسمانوں اور زمین کے ہیں خوشی سے اور ناخوشی سے اور طوعاً و کرہاً

يَرْجِعُونَ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ مَرِيئًا فَلَنْ

پھیرے جا دیئے اور جو کوئی چاہے سوائے اسلام کے دین پس ہرگز

يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِ أَفَلَا وَرَبِّكَ

قبول کیا جاوے گا اور وہ بیچ آخرت کے ٹوٹا پائے والوں سے ہے پس تم میں سے جو لوگ تم سے

لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَكْمُوكَ فِيهَا شِجْرًا بَيْنَهُمْ لِيَجْزُوا

نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ تم کو جانے تکو بیچ اوس چیز کے کہ جھاگین درمیان اپنے ہر پناہ دین

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوْا سَلِيمًا

بیچ جنوں اپنے کے تنگی اوس چیز سے کہ حکم کرے تو اور مان بیومین من لینے کر

الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

کہ وہ لوگ کہ جاے طرف اوس قوم کے کہ درمیان تمہارے اور درمیان اوتنے عہد ہے

أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ

یا آویں تمہارے پاس کہ ٹک گئے ہیں سینے اوتنے کے جو کہ لڑیں تم سے یا

يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ قَوْمٌ مِّمَّهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ

شرین قوم اپنا سے اور اگر چاہتا اللہ البتہ مسلط کرنا اوتکو اور تمہارے

فَلَقَاتِلُوا قَوْمًا مِّمَّهُمْ فَاقَاتِلُوا قَوْمًا مِّمَّهُمْ

پس البتہ لڑو گے سے پس اگر کیوں ہو جاوین سے پس نہ لڑیں تم سے اور ڈالیں

إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

طرف تمہارے صلح پس نہیں کی اللہ نے واسطے تمہارے اوپر اوتنے راہ

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا  
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا  
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا



يَسْتَدُونَ الْآخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا كَمَا يَأْمَنُوا

البتہ پاؤں کے تم اور لوگ کہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ امن میں امن سے اور امن میں امن

وَمَا لَهُمْ كَلِمَةٌ وَلَا إِلَىٰ لَفْتِنَةٍ أُرْكَسُوا فِيهَا فَان كَمَ

قوم اپنی سے جسک پھیرے جاتے ہیں طرف لڑائی کے اٹھ کئے جاتے ہیں بیچ اوسکے پس اگر

يَعْتَرُونَكُمْ وَيَقُولُوا لَيْسَ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ وَيَكْفُرُوا بِإيديهم فَنُقِذْ لَهُمْ

اگر طرف ہو جا دین تم سے اور دالین طرف تمہارے صلح اور نہ بند کریں اقصوان اپنے کو پس بچو اور انکو اور

أَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ

بار اولو اور انکو جہان پاؤں اور انکو اور یہ لوگ کیا ہے ہمتے واسطے تمہارے اور انکو

سُلْطَانًا مُّبِينًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ

غلبہ ظاہر اور لوگو جو ایمان لائے ہو جو وقت چلو تم بیچ راہ

اللَّهِ فَتَيَبْنَاؤُا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ

خدا کے پس تحقیق کرو اور مت کہو واسطے اوسکے کہ ڈالے طرف تمہارے سلام نہیں تو

مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَامٌ

مسلمان چاہتے ہو تم اسباب زندگانی دنیا کا پس نزدیک اللہ کے میں غمیتیں

كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَيَبْنَاؤُا

بہت اس طرح تھے تم پہلے اس سے پس ایمان کیا اللہ نے اور تمہارے پس تحقیق کرو

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِأَعْمَالِكُمْ خَبِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ

تحقیق اللہ ہے ساتھ اوس چیز کے کہ کرتے ہو تم خیر اور کون ہے بہتر

دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبِعْ

دین میں اوس شخص سے کہ طبع کرے منہ اپنا واسطے اللہ کے اور وہ نیکی کرے والا ہو اور پیروی

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَخَذْنَا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

دین ابراہیم حنیف کی اور پکڑا اللہ نے ابراہیم کو دوست

موسلم حسنہ لکھنؤ صاحب ۱۱

الذکر



يَعْمَلُونَ وَعَلَىٰ أَعْرَافٍ جَالٌ يَعْرِفُونَ كَلِمَاتِ

کرتے اور اوپر اعراف کے مرد ہونگے پہچانتے ہیں ہر ایک کو

بِسْمِهِمْ وَنَدُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ

چہرے اونکے سے اور پکاریں گے یعنی والے بہشت کو یہ کہ سلامتی ہے اور تمہارے

لَمُيَدِّ خُلُوقِهَا وَهُمْ يَطْبَعُونَ ۚ وَلَوْ أَرَادْتُمْ كَثِيرًا

تہیں داخل ہوئے بہشت میں اور وہ امید رکھتے ہیں اور اگر دکھلاتا تجکو وہ بہت

لَفَشَلْتُمْ وَلِتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ

البتہ سستی کرتے تم اور البتہ جھگڑتے تم بیچ کام کے لیکن اللہ نے سلام رکھا تحقیق

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

جاننے والا ہے سینے کی بات کو تحقیق جو لوگ کہ ایمان لائے اور کام کیے

الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ

بچھے راہ دکھاوے گا انکو رب انکا بسبب ایمان اونکے کے چلین گی

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۚ دَعْوَاهُمْ فِيهَا

سچے اونکے سے نہرین بیچ بہشتوں نعمت کے پکارنا اونکا ہے بیچ اونکے

سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ

پکی ہے تجکو اے اللہ اور دعا ملاقات اونکی کی بیچ اونکے سلام ہے اور آخر پکارنا اونکا یہ ہے

أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ۚ وَ

کہ سب تعریفیں اللہ کے ہی ہر روز گارے عالمین کا اور اللہ پکارتا ہے طرف گھر سلامتی کے اور

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ قِيلَ

دکھاتا ہے جسکو چاہے طرف راہ سیدھی کے لگا گیا

بِئْسَ مَا أَهْبَطُ بِسَلَامٍ مِنَّا ۚ وَبَرَكَتِكَ وَعَلَىٰ أُمِّمٍ

اے کفر اور ساتھ سلامتی کے ہماری طرف سے اور ساتھ برکتوں کے اوپر تیرے اور لوہے امتوں کے

صلوات اللہ علیہ  
در تمام قرآن وصول ہرگز باوجود نہ  
لاذکر کتب و ضوابط تعلیمت ۱۳  
سنتی الاموال  
در تمام قرآن وصول ہرگز باوجود نہ  
لاذکر کتب و ضوابط تعلیمت ۱۳  
سنتی الاموال  
در تمام قرآن وصول ہرگز باوجود نہ  
لاذکر کتب و ضوابط تعلیمت ۱۳  
سنتی الاموال

مَمْرًا مَعَكَ وَأَمْرًا سَمِعْتَهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مَنَاةُ كَذَلِكَ

اون لوگوں سے کہ ساتھ تیرے ہیں اور امتین ہونگی کہ البتہ فائدہ دینگے ہم انکو پھر لگیگا نہ اونکو چار طرف سے ہذا

الْيَوْمِ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ فَحِجَّهَا لِيكُ مَا كُنْتَ

درودنے والا = خبروں غیب کی سے ہر وحی کرتے ہیں ہم اونکو طرف تیرے نہ تھا تو

تَعْلَمَهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ

جانتا اونکو تو اور نہ قوم تیری پہلے اس سے پس صبر کر

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا

حقیق عاقبت واسطے پر ہیزگاروں کے ہر اور البتہ تحقیق آئے بھیجے ہوتے ہمارے

إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرِى قَالُوا اسَلْمًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا

ابراہیم کے پاس ساتھ تو خبری کے کہنے لگے کہ سلام بھیجے ہیں ہم کہا سلام ہو پس نہ

لَيْتَ أَنْ جَاءَ عَزْرٌ يُعْجِلُ خَيْرًا ۝ جَنَّتْ عَدُوُّهُمْ خَلْوَاهَا

دیر کی یہ کہ لے آیا گئے کا بچہ تلا ہوا بہشتین میں ہمیشہ رہنے کی کہ داخل ہو گئے

وَمَنْ صَلَّى مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ

اور جو کوئی کہ تین ہی باتوں اونکے سے اور بی بیوں اونکی سے اور اولاد اونکی سے

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

اور فرشتے داخل ہونگے اور اونکے ہر دروازے سے

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

سلامتی ہر اور تمہارے بسبب اسکے کہ صبر کیا تھے پس بھاری عقبہ کا گھر

وَأَدْخِلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَزَىٰ

اور داخل کیے جاویں گے وہ لوگ کہ ایمان لائے اور کام کیے ایسے بہشتوں میں چلتی ان

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَجْتَنِّهِمْ

نیچے اونکے نہرین ہمیشہ رہنے والے نہرچ او سکے ساتھ حکم پر وہ دگلا اونکے کے جملات اونکی

معاذ اللہ

اللہ تعالیٰ عدل در لوگوں میں سب سے زیادہ سزا دے گا

تو قابض مدد کے شاعر ہوں

وَأَسْلَمَ ۚ إِنَّ الْمُنْتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعِيُونَ ۝

یعنی اس کے سلام پر تحقیق پر آمیزگار بیچ بہشتیوں کے اور چشموں کے ہیں

أَدْخُلُوها بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ

کہیں ان کو داخل ہوا وہیں ساتھ سلامتی کے امن سے اور نکال دیا ہم نے جو کچھ بیچ سینوں ان کے کے تھا

مِنْ غَيْلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ

ناخوشی سے بھائی ہو جائیگی اور تختوں کے آمنے سامنے نہیں لگے گی ان کو

فِيهَا نَضِيبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي

بیچ ان کے بہت اور نہیں وہ اس سے نکالے گئے ہوں گے خبروں بدون میرے کو یہ تحقیق

أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

میں ہوں بخشنے والا مہربان اور یہ کہ عذاب میرا وہ ہی عذاب

الْأَلِيمُ ۝ وَيَسْتَهْمِرُ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ دَخَلُوا

در دہشتے والا اور پھرتے ان کو مہمان ابراہیم کے سے جسوقت داخل ہوئے

عَلَيْهِمْ وَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا أَنْكُرُكُمْ وَجِبِلُونَ ۝

ان پر اس کے پس کیا انہوں نے کہ سلام کر رہے ہیں ہم کہا تحقیق ہم تم سے ڈرتے ہیں

الَّذِينَ تَوْفِقُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَلَمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا

جو قبض کرتے تھے ان کو فرشتے اس عداوت میں لگے کرتے تھے جانوں اپنی کو پس الی انہوں نے

السَّلَامَ مَا كُنَّا لَنَعْمَلَ مِنْ سَوْءِ عِبَادِكُمْ إِنَّا لَنَلَّهُ

سلیح کہ تھے ہم کرتے کچھ برائی یوں نہیں تحقیق اللہ

عَلَيْهِمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ جَنَّتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

یعنی وہاں پر ساتھ اس چیز کے کہ تھے تم کرتے بہشت ہونے کی داخل ہونے ہیں

مُحْرَمِي مِنْ حَتَّىٰ الْآخِرِ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

پہلی میں بیچ ان کے نہیں اس کے بیچ ان کے جو چاہیں

سبحان قاطع فائز کہ ع سویم سیاہ چہارم ۱۳

بیسی لاندہ غیر مضمون کبریٰ حمزہ ساکنہ ووصول بیانیہ ششہ شہود ۱۳

سبحان قاطع فائز کہ ع سویم سیاہ چہارم ۱۳

سبحان قاطع فائز کہ ع سویم سیاہ چہارم ۱۳

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری تسلیمات ہر شخص کے دل سے پڑھنے سے اس کو اللہ تعالیٰ سے ملے اور اس کی ہر چیز میں برکت ہو۔ آمین

كَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ

اس طرح جزا دیتا ہے اللہ پر ہیزگاروں کو جو لوگ توفیق کرائے

الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا

فرشتے کہ پاکیزہ ہیں کہتے ہیں فرشتے کہ سلامتی ہے اوبہ تمہارے داخل ہو

الْجَنَّةَ يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالْقَوْلُ إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ

بہشت میں جسے کہتے تھے تم عمل کرتے اور ڈالیں گے طرف اللہ کے اوس دن

السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَسَلَامٌ

صلح اور کھوئی جھاڑی اون سے وہ چیز کہتے باندھ لیتے اور سلام ہے

عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُرْجَعُ جَسَدُهُ

اوپر اُس کے جسد پیدا ہوا اور جسد مرگا اور جسد اٹھایگا زندہ ہوکر

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ وُلِدَتْ وَأَمَاتُ يَوْمَ رُبِعَتْ جَنْبُهَا

اور سلامتی ہے اوپر میرے جسد پیدا ہوا میں اور جسد مرونگا اور جسد اٹھوئنگا میں زندہ ہوکر

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ

کہا سلام ہے اوپر میرے البتہ بخش مانگوئنگا میں واسطے تیرے رب اپنے سے تھیں وہ ہے

بِي حَفِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَ

ساتھ میرے مہربان نہیں سنیں گے بیچ اُن کے بیوردہ کر سلام اور

لَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَى

واسطے اُن کے ہے رزق اُن کا بیچ اس کے صبح اور شام اور سلامتی اوبہ

مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى فَلَنَجِّنَاكَ رُحْمًا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ

اوس شخص کے کہ پیروی کرے ہدایت کی کہا ہم نے اسی کو جو جاتا تو حمد ہی اور سلامتی

عَلَى إِبراهيمَ وَآلِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ

اوبہ ابرہیم کے اور ارادہ کیا اُوبہ کو کھانا اس کے مکر کا پس کیا ہم نے اوتھیں

لَا خَيْرَ لَكُمْ فِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيْوتَنَا

بیان پانے والا اور لوگو جو ایمان لائے ہو مت داخل ہو

غَيْرِ بَيْوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

سوگ گھروں میں نہ کہ یہاں تک کہ اون سے پوچھو اور سلام کرو اور پہلے والوں کو سلام کرو

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِذَا دَخَلْتُمْ

یہ بہتر ہے واسطے تمہارے تاکہ تم نصیحت پکڑو پس جسوقت داخل ہو گئے

بَيْوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

گھروں میں پس سلام بھیجو اور آپسوں کو تسلی کے دعا مقرر کی ہوئی نزدیک اللہ کے سے

بِرَكَّةٍ طَيِّبَةٍ ۝ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

برکت والی پاکیزہ بے طرح بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے نشانیان

لَكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ

تو کہ تم سمجھو اور بندے رحمن کے وہ لوگ ہیں کہ چلتے ہیں

عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

پر زمین کے آہستہ اور جسوقت بات کرتے ہیں اون سے جاہل

الْقَائِلِينَ وَالَّذِينَ يُبَيِّنُونَ لِرَبِّهِمْ سُكْرًا

تسلی میں کہ سلام ہو اور وہ لوگ کہ رہتے ہیں واسطے پروردگار اپنے کے سبوح کرتے ہو

وَقِيَامًا ۝ أُولَئِكَ يَجْزُونَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا

دلالت یہ لوگ بدلہ دیے جائیں گے بالاخانے بسبب اس کے کہ صبر کیا انھوں نے

يَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ

پر پوچھ جائے جائیگے نہج اس کے دعا زندگی اور سلامتی کو جس دن کہ نہ نفع دیگا مال

لَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنُ اتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

نہ بیٹے جو کوئی لاوے اللہ کے پاس دل سلامت

میں تالیف اور تالیف

صحت کو کوی چھارہ دم

سوق قاف الفرقان کو چھارہ سپارہ روز دم

قریب تاملی کو چھ نکور

شوق شاعر کو چھ نکور

قَالَ رَبِّ انِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ سَلَامًا

کہا بلقیس نے اور پروردگار پر تحقیق میں ظلم کیا اور اپنی جان کو اور صلح ہوئی ساتھ سلیمان

لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ اَحْمَدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِ

واسطے اللہ پروردگار عالموں کے کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہیں اور سلام اور پر بندوں کے

الَّذِينَ اصْطَفٰى لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ خَيْرٌ اَمَّا يَشْرِكُونَ وَاِذَا سَمِعُوا

جنکو برگزیدہ کیا اللہ نے اللہ ہی پر یا سبکو شریک لاتین اور جب سنتے ہیں

اللغو اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا اَعْمَالُنَا وَاَكُم

بیوقوفی بات اعراض کرتے ہیں اوس سے اور کہتے ہیں واسطے ہمارے اعمال ہمارے اور واسطے تمہارے

عَمَلِكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا يُبْتَغِ الْجَاهِلِيْنَ وَلَمَّا رَا

اعمال تمہارے سلام رخصت کا اور تمہارے نہیں چاہتے ہم جاہلون کو اور جسوقت دیکھا

لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْاَحْزَابِ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا

ایمان والوں نے جماعتوں کو کافروں کی کہا یہی جو وعدہ دیا ہی ہوگا

اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ

اللہ نے اور اوس کے رسول نے اور سچ کہا تھا اللہ نے اور اوس کے رسول نے اور نہیں زیادہ اونکو

اِلَّا اِيْمَانًا وَّلَسْلَيْمًا حَتّٰى يَمُوتَ يَوْمَ يَقُوْلُ السَّلَامُ

مگر ایمان اور اطاعت دعا اونکی ہی جسوقت ملاقات کریں گے اوس سے سلام

وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهٗ

اور تیار کیا ہی واسطے اونکے ثواب بڑا تحقیق اللہ اور فرشتے اوس کے

يَصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا صَلُّوا

پروردگار نے ان اور نبی کے اور لوگو جو ایمان لائے ہو وہ اور بھی

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَامٌ مِّنْ قَوْلِكَ وَمِنْ رَبِّ

اور اوس کے اور سلام بھیجو سلام بھیجنا سلام کیا جاوے گا پروردگار

طبقہ النسل خانہ کوکوع جدم ۱۱ شرح القصصہ کوکوع نمبر ۱۱۲۱ شرح القصصہ کوکوع نمبر ۱۱۲۱ شرح القصصہ کوکوع نمبر ۱۱۲۱



حیدر ○ و امتاز و الیوم ایھا الجمی مون ○ سلام

ایران کی طرف سے اور جدا ہو جاؤ آج کے دن اس گنگارو سلامتی ہو جو

علی نوح فی العالین ○ سلام علی ابراہیم ○ سلام

اور نوح کے بیچ سب عالموں کے سلام ہو جو اور ابراہیم کے سلام ہو جو

علی موسیٰ و ہرون ○ سلام علی الیاسین ○

اور موسیٰ اور ہرون کے سلام ہو اور الیاس کے

بمجن ربک رب العزیز عمایصفون ○ و سلام علی

کی زبان کر ہر دور دکھانے کی بدوردگار عزت والے اس چیز سے کہ بیان کرتے ہیں اور سلامتی ہو

لمسلسلین ○ و الحمد لله رب العالین ○ سلام

پہلے دن بد اور سب تعریف واسطے اللہ پروردگار عالموں کے ہو سلامتی ہو جو

فلیکم طبت و فادخلو ما خلدین ○ و قیلہ

پھر تمہارے خوشحال ہوئے تم پس داخل ہو او سہین ہمیشہ رہنے والے اور بہت کرا کر تازہ پیغمبر

بیر ان هولاء قوم لا یؤمنون ○ فاصغر عنہم

ربیر حقیق یہ قوم ہیں کہ نہیں ایمان لاتے پس ننھ پھیر لے اون سے

قل سلام فسوف یعلون ○ فلا تهنوا و تدعوا

کہ سلامتی مانگتے ہیں تم تمہاریسے پس اللہ جان لینگے پس مت سستی کرو اور مت بلاؤ اون کو

السلم و انتم الاعلون و اللہ معکم و لن

تم صلح کے اور تم ہو غالب اور اللہ ساتھ تمہارے ہو اور ہرگز نہ

کذا عمالکم من خشبی الرحمن بالغیب و بما

میں دیکھتے عمل تمہارے جو کوئی ڈرتا ہو اللہ سے بن دیکھے اور آتا ہو

لمنیب ○ ادخلو ما یسلم ذلک یوم الخلو

تو داخل جمع کرنے والے کے داخل ہو او سہین سلامتی کے یہ ہر دن ہمیشہ رہنے کا

ظن ان صفت در کوع ہفتم ۱۲

عظمیٰ مگر کو کوع ۱۲

مصلحت فی کوع ۱۲

مصلحت فی کوع ۱۲

مصلحت فی کوع ۱۲

مصلحت فی کوع ۱۲

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ هَلْ أَتَاكَ

اسطے اور کچھ اور کچھ کہ جائیں گے بیچ اوسکے اور نزدیک ہمارے ہر زبانی کیا آئی ہے حیرت ہاں

حَدِيثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ الْمَكْرَمِ مِثْلًا اِذْ دَخَلَ

بات ہمانوں ابراہیم حرمت کی گئی کی جسوقت داخل

عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمِ مَنْكُمْ وَنَ

اوپر اوسکے آپس کہا اوضوں نے سلام ہے کہا سلام ہے تم قوم ہو نا پہچان

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمُ الْاَقْبَابُ

نہیں سنیں گے بیچ اوسکے بیہودہ اور نہ گناہ کی باتیں مگر کہنا

سَلَامًا سَلَامًا وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ

سلام ہے سلام ہے اور اگر جو ہے وہ راہی طرف دائون سے

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ لَا يَسْتَقْبَلُ

پس سلامتی ہے تجکو راہی طرف دائون سے نہیں برابر رہنے والے

النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْفَارِغُونَ

آگ کے اور رہنے والے بہشت کے رہنے والے بہشت کے وہ ہیں مراد پانچ اور

لَوْ اَنْزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْنَهُمْ خَشْيَةً

اگر اوتارتے ہم اس قرآن کو اوپر پہاڑ کے البتہ دیکھتا تو اسکو بے جا رہ

مُتَصِدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ

پھٹ جاتے والا ڈر خدا کے سے اور یہ مثالیں

نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللّٰهُ

بیان کرتے ہیں ہم واسطے لوگوں کے تاکہ وہ فکر کریں وہ ہے اللہ

الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

جو نہیں کوئی معبود مگر وہ جانتے والا پوشیدہ کا اور حاضر کا

موقوف الیوم حضرت کو کورع نوزد ہم سپہا اور بست مشتمل ۱۱  
وقفلہم  
۱۲  
صوتی کا لفظ ہے جو کورع نوزد ہم سپہا اور بست مشتمل ۱۱  
۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

وہ ہی بخشنے والا مہربان وہ ہی اللہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ

لَمَلِكُ الْقُدْرَةِ وَالسَّلَامِ الْمَوْجِبِ مِنَ الْمُهَيَّمِ ۝

بادشاہ پاک سلطنت عظیم سے امن دینے والا تکیاں

الْعَزِیْمِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ عَمَّا

غالب زبردست تکبر والا پاکی ہی اللہ کو اس چیز سے

يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْكَافِرُ الْبَارِكُ الْمَصْبُورُ

جو شریک لاتے ہیں وہ ہی اللہ پیدا کرنے والا درست کرنے والا صورتیں بنانے والا

الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی طِبِيبٌ لِّهٖ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

واسطے اوس کے بہن نام اچھے پالی بیان کرنے میں واسطے اوس کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور

الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ

زمین کے ہی اور وہ ہی غالب حکمت والا شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِنَّا نَزَّلْنٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

بخشنے والا مہربان کے تحقیق نازل کیا ہے قرآن کو بیچ رات قدر کے

وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

اور کیا جانے تو کب ہی رات قدر کی رات قدر کی

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

بہتر ہی ہزار مہینے سے اترتے ہیں فرشتے اور روحیں پاک

فِيهَا يٰۤاٰزِزٌ يُّبَسِّطُ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ

بیچ اوس کے ساتھ علم رب اپنے کے واسطے ہر کام کے سلامتی ہی وہ ہے

حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ اِنَّا نَزَّلْنٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

یہاں تک کہ طلوع ہو جسے پھر ہاتھ اٹھانے اور یہ دعا پڑھے

ص سوسو ح القدر کے کوع نسبت و درم سبتا کہ سبتی ام ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ اٰخِمْ لِي بِمَآخِمْتِ يَهْ عِيَادِكَ الصَّلِيْبِيْنَ

اور خاتمہ کر میرا اوسپر کہ خاتمہ کیا تو نے ساتھ اوسکے بندوں اپنے نیکوں کا

الَّذِيْنَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

وہ لوگ کہ نہیں خوف ہے اوپر اوسکے اور نہ وہ غمگین ہیں

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

تحقیق تو ہی تعریف کیا گیا بزرگ اور رحمت بھیجے اللہ اوپر حضرت محمد کے اور اوپر

اَلْحَمْدُ وَوَسَلَّمَ ۙ اَللّٰهُمَّ شَرِّفْنَا بِكِتَابِكَ الْكَرِيْمِ

آن محمد کے اور سلام بھیجے اے اللہ میرے شرف کر تو ہمکو ساتھ کتاب اپنی بزرگ کے

وَ عَزِّزْنَا بِكَلَامِكَ الْقَدِيْمِ ثَبَّتْنَا عَلٰى نَهْجِ

اور معزز کر تو ہمکو ساتھ کلام اپنے قدیم کے ثابت رکھ ہمکو اوپر طریق

الْمُسْتَقِيْمِ نُوْرٍ بِنُوْرِ رِبَّاكِنَا ۙ وَ اَصْلِدْ بَيْنَهُ حَالَنَا

سیدھے کے روشن کر تو ساتھ اوسکی روشنی کے ان ہمارا اور نیک کے تو ساتھ اوسکی برکت حال

وَ اجْعَلْ لَنَا حَافِظًا وَ حَارِسًا مِّنْ اَلْاَفَاتِ وَ

اور کر تو اوسکو واسطے ہمارے حفاظت کرنے والا اور نگہبان آفتوں اور

الْعَاثَاتِ وَ اَلْبَلِيَّاتِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ اللَّيْلِ وَ

بلاؤں اور فتنوں سے سفر میں اور حضر میں اور رات میں

النَّهَارِ وَ النَّوْمِ وَ الْبِقْظَةِ ۙ وَ فِي جَمِيْعِ اَحْوَالِنَا وَ قَضَاءِ

دن میں اور سوئے میں اور جاگتے میں اور سب حالوں میں ہمارے اور رات میں

حَاجَاتِنَا ۙ اَللّٰهُمَّ اَخْتَمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَ السَّعَادَةِ ۙ وَ لِيَصِرْ

ہماری حاجتوں میں اللہ میرے خاتمہ کر تو ہمارا ساتھ خیر اور نیک بختی کے اور چاہیے کہ

اٰخِرُ قَوْلِنَا قَوْلُ الشَّهَادَةِ ۙ نِيَّآ اَرْحَمَ الرَّحْمٰنِ

آخر قول ہمارے کو قول شہادت سے اے زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں

# تَهْلِيلًا لِنَبِيِّهِ وَلَا لِدِينِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے اور معبود تمہارا معبود ایک ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ

نہیں کوئی معبود مگر وہ بخشنے والا مہربان اللہ نہیں کوئی معبود

لَا هُوَ أَحَدٌ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا

مردہ زندہ ہی ہمیشہ رہنے والا نہیں پکڑتی اوسکو اونگہ اور نہ

نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ

نیند واسطے اوسکے ہی جو کچھ سچ آسمانوں کے اور جو کچھ سچ زمین کے ہے کون ہے

ذَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ

وہ جو سفارش کرے نزدیک اوسکے مگر ساتھ علم اوسکے کے جانتا ہے

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

جو کچھ آگے اوسکے ہے اور جو کچھ پیچھے اوسکے ہے اور نہیں گھبرے

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

ساتھ کسی چیز کے علم اوسکے سے مگر ساتھ اوسن چیز کے کہ چاہے سمایا کرسی اوسکی نے

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ

آسمانوں اور زمین کو اور نہیں تھکتا اوسکو نگہبانی اون دونوں کی

هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اور وہ ہی بلند مرتبے والا بڑا شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِكْ لَكُمْ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ

اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ ہی ہمیشہ رہنے والا اوتاری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
عَشْرَةَ الْبَقِيَّةِ تَامِي كَوْنِ سَوْمِ سَيَّارَةِ دَوْمِ ۱۱ صَدْرُ كَوْنِ دَوْمِ سَيَّارَةِ سَوْمِ ۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

اور تیسرے کتاب ساتھ حق کے سچا کرنے والی اور اس چیز کو کہ آگے اور

وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هَذَا

اور اتنا ہی تورات اور انجیل پہلے اس سے راہ دکھانے

لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

واسطے لوگوں کے اور انار سے معجزے تحقیق جو لوگ کہ کافر ہوئے

بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ساتھ نشانوں اللہ کے واسطے اوسکے عذاب سخت ہے اور اللہ غالب ہے

ذُو انْتِقَامٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفِي عَلَيْهُ شَيْءٌ

بدلا لینے والا تحقیق اللہ نہیں چھپی ہے اور اوسکے کوئی چیز

لَا رِضٌ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي

زمین کے اور نہ بیچ آسمان کے وہ ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری

الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

رحمہ کے جیسی چاہے نہیں کوئی معبود مگر وہ غالب

الْحَكِيمُ ۚ تَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَ

حکمت والا گواہی دہی اللہ نے یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ اور

الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا

گواہی دہی فرشتوں نے اور علم والوں نے کہ قائم ہیں ساتھ انصاف کے نہیں کوئی معبود

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُصَلُّونَ

وہ غالب حکمت والا تحقیق دین نزدیک اللہ کے اسلام ہے

وَمَا اخْتَلَفُ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

اور نہیں اختلاف کیا اون لوگوں نے کہ نیے گئے کتاب مگر پیچھے اسکے

صورتیں بناتا ہے تمہاری

اور نہیں اختلاف کیا اون لوگوں نے کہ نیے گئے کتاب مگر پیچھے اسکے

مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ

اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ

مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ

وَاحِدٌ سُبْحَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَقَدْ كَفَرَ

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَمَنْ مِمَّنْ إِلَهٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ

لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ آلِيمٍ ۝

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِنِعْمَةٍ فَمَوْعِدٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۝ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

کہ آیا اوس کے پاس علم سرکشی سے درمیان آوے اور جو کوئی کفر کے ساتھ نشانہوں  
اللہ کے پس تحقیق اللہ جلد لینے والا ہے حساب کا اللہ نہیں کوئی معبود مگر  
وہ البتہ اکٹھا کرنے کا تمکو طون دن قیامت کے نہیں شک سچ اوس کے اور  
کون شخص بہت سچا ہے اللہ سے بات میں سوائے اسکے نہیں کہ اللہ معبود  
اکیلا ہی باقی ہے اوسکو اس سے کہ ہو واسطے اوس کے اولاد تحقیق کافر ہوتے  
وہ لوگ کہہ سکتے ہیں تحقیق اللہ تین تین ہیں اور نہیں کوئی معبود  
مگر معبود ایک اور اگر نہ باز رہیں گے اوس پہنچے کہ کہتے ہیں  
اللہ کے گا اون لوگوں کو کہ کافر ہوتے اومیں سے عذاب دروینے والا  
اور اگر لگا دیوے بھگو اللہ ضرر پس نہیں کھولنے والا اوسکو مگر وہی  
اور اگر لگا دیوے بھگو بھلائی پس وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے  
اور وہ ہر غالب اوپر بندوں اپنے کے اور وہ ہی حکم والا ہر وار

قُلْ إِنِّي شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي

کہم کون چیز ہی بڑی گواہی میں کہا اللہ ہی گواہ اور میان میں

وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ

اور در میان تمہارے اور وحی کیا گیا ہے میرے یہ قرآن تو کہ ڈراؤن میں تمکو

يَوْمَ مَنْ يَلْبَغُ أَيْتَانِكُمْ لِتَشْهَدُوا أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ

ساتھ اس کے اور جبکو پوسے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ ساتھ اللہ کے معبود

أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ

اور میں کہ میں نہیں گواہی دیتا کہ سولے اس کے نہیں کہ وہ معبود

وَإِحْدٌ وَلَا تَنِي بِرَبِّي مِمَّا تَشْرِكُونَ ذَلِمَ اللَّهُ

ایکلا ہی اور تحقیق میں بیزار ہوں اس چیز سے کہ شریک لگتے ہو یہی ہے اللہ

رَبِّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ

پروردگار تمہارا نہیں کوئی معبود مگر وہ پیدا کرنے والا ہر چیز کا پس عبادت کرو اسکی

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ

اور وہ اوپر ہر چیز کے کارساز ہے پیروی کرو اس چیز کی کہ وحی کی گئی ہے طرف تیرے

مَنْ رَبِّكَ إِلَّا إِلَهٌ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

تیرے رب کی طرف سے نہیں کوئی معبود مگر وہ اور تمہارے پھیلے شرک کرنے والوں سے

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

کہم لوگو تحقیق میں تمہیں ہوں اللہ کا طرف تمہارے سب کے

الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہ جو واسطے اس کے ہی پادشاہی آسمانوں اور زمین کی نہیں کوئی معبود مگر وہ

يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَسْمِعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَارْءَاكُم مَّا تَعْمَلُونَ

زندہ کرتے اور مرنے دیتے ہیں ان کو سناؤ اللہ کے اور رسول اس کے کہ جو نبی ہیں ان میں

صلوہ کر کے اور وہ ہم ۱۲ صلوات علی دیکر درود کر کے فرمودہ ۱۲ صلوات علی قائلہ صلوات علی صدر کو نام بسیار ہنرمند



الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُمْ

وہ جو ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے اور باتوں اور کلمات کے اور پیروی کرتا ہے تمہاری اور تمہاری باتوں کو

تَهْتَدُونَ ۝ اخذوا الحجارهم و رهبانهم

راہ پاؤ پکڑا اور انھوں نے عالموں اپنیوں کو اور درویشوں اپنیوں کو

أرسلنا من دون الله والمسيح ابن مريم وما

پروردگار سوائے اللہ کے اور مسیح بیٹے مریم کے کو اور ہمیں

أمرنا ولا نعبد إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا اله الا هو

حکم لے گئے مگر یہ کہ بندگی کریں معبود ایک کو نہیں کوئی معبود مگر وہ

سبحانه عما يشركون ۝ فإن تولوا فقل حسبي الله

پاک ہے او کو اور جو چیز سے کہ شریک لائے ہیں پس اگر پھر جاوین پس کہ کفایت ہے بحکم اللہ

لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش

نہیں کوئی معبود مگر وہ اوپر اس کے توکل کیا میں نے اور وہ پروردگار عرش

العظيم ۝ وجوزنا بني اسرائيل ليعبدوا

بڑے کا ہے اور اتارے گئے ہم بیٹوں یعقوب کو دریا سے پس چھا کیا اور

فرعون وجنودها بغيا وعدوا حتى إذا أدركه

فرعون نے اور لشکر اس کے نے سرکشگی سے اور بغی سے یہاں تک کہ جب پالیا اور

الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت

غرق نے کہا کہ ایمان لایا میں یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ کہ ایمان لائے ہیں

بني اسرائيل وانا من المسلمين ۝ التث وقد

ساتھ اس کے بنی اسرائیل اور میں فرمانبرداروں سے ہوں کیا ایمان لاتا ہوں انھیں

عصيت قبل وكنت من المفسدين ۝ وان

نا فرمانی کر چکا تو پہلے اور تمھارے مفسدون سے اور اگر

عصيت قبل وكنت من المفسدين ۝ وان

مفسدون سے اور اگر

مستحق التوبه در کرم باز در کرم بسیار در دهم ۱۱ صفا تمہارے کو بیخ بسیار در دهم ۱۱ مستحق توبہوں در کرم چھار دہم ۱۱

اللہ سے دعا ہے کہ اس کلمہ کی تفسیر اور اس کے فضائل اور اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب سچ اور درست ہو اور اس سے ہر مومن کو نصرت اور مدد ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی اور جنت سے اپنی خواہش کے مطابق نصیب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی اور جنت سے اپنی خواہش کے مطابق نصیب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی اور جنت سے اپنی خواہش کے مطابق نصیب ہو

يُمْسِكُ اللَّهُ بِضُرِّكَ فَلاَ كاشِفَ لَهُ إِلاَ هُوَ وَإرادے گا دیوے بجز اللہ برائی پس نہیں کھولنے والا واسطے اس کے مگر وہی اور

مِيرِدٌ بَخِيرٌ فَلاَ كَرادَ لِقْضائِهِ يَصِيبُ بِهِ مَنَ لِيَسْتَأْتِ ارادہ کرے ساتھ تیرے بھلائی کا پس نہیں کوئی کھیرے والا اس کے فضل کا پہونچا دیتا ہے وہ اس کا جملہ جانتا ہے

مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلاَ تَسْتَكْبِرُوا بندوں اپنے سے اور وہ بخشنے والا مہربان ہی پس اگر تم قبول کریں

لكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَإِن لَّآ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ واسطے تمہارے پس جان لو تم یہ کہ وہ اتارا گیا ہے ساتھ علم خدا کے اور یہ کہ نہیں کوئی معبود کو

هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قُلْ هُوَ رَبِّيَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ پس آیا ہو تم فرمانبرداری کرنے والے کہ وہی ہی پروردگار میرا نہیں کوئی

الْأَهْوَى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ هَذَا مگر وہ اوپر اس کے توکل کیا میں نے اور طرف اس کے توبہ کرنا میرا یہ

بَلِّغُ لِلنَّاسِ لِيُنذِرُوا بِهِ وَيَلْعَلُوا أَنَّمَا پہونچا دینا واسطے لوگوں کے ہی اور تو کہ ڈرانے جاوین ساتھ اس کے اور تو کہ جانیں کہ سو اس کے

هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلَيْدٌ كَرِيمٌ فَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ بِالْمَلَأِكَةِ بِالسُّرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَاكِفٌ مِّنْ عِبَادِهِ أَنِ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اس کے کہ خود عبود الیلا ہی اور تو کہ نصیحت پکڑین صاحب عقول کے

يُنزِّلُ الْمَلَأِكَةَ بِالسُّرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَاكِفٌ مِّنْ عِبَادِهِ أَنِ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اتارا تا ہی فرشتوں کو ساتھ روح کے حکم اپنے سے اور

أَنِ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اس کے کہ چاہتا ہی بندوں اپنے سے یہ کہ ڈراؤ ساتھ اس بات کے

أَنِ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اس کے کہ چاہتا ہی بندوں اپنے سے یہ کہ ڈراؤ ساتھ اس بات کے

Marfat.com

الذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ

پس جو لوگ کہ نہیں ایمان لاتے ساتھ آخرت کے دل اونکے انکار کرتے ہیں

وہم مستکبرون وقال اللہ لا تتخذوا الہین

مغرور و تکبر کرنے والے ہیں اور کہا اللہ نے مت پکڑو دو معبود

اثنین إنما ہولاء واحد فایای فارہبون

دو میں کا سوا اس کے نہیں کہ وہ معبود اکیلا ہی پس مجھے درو

قل إنما ابشر مثلکم یوحی الی انما الہکم اللہ

کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں آدمی ہاں نہ تمہارے وحی کیجاتی ہی طرف میرے یہ کہ معبود تمہارا

واحد فمن کان یرجو القاء ربہ فلیعمل عملا

ایک ہی پس جو کوئی ہی امید رکھتا ملاقات رب اپنے کی پس جاسیے کہ عمل کرے

صالحا ولا یشرك بعبادۃ ربہ احدا اللہ

اپنا اور نہ شریک لاوے ساتھ عبادت پروردگار اپنے کے سیکر اللہ ہی

الا الہ ہولاء الاسماء الحسنی واننا

نہیں کوئی معبود مگر وہ واسطے اوس کے ہیں نام اس مجھے اور میں نے

خذتک فاستمع لما یوحی انی ان اللہ لا

بسد کیا تجکو پس سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہی تحقیق میں ہوں اللہ میں

الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلوۃ لذکر ربی

کوئی معبود مگر میں پس عبادت کر میری اور قائم کر نماز کو واسطے یاد گیری کے

انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسیع کل

سوائے اس کے نہیں کہ معبود تمہارا اللہ ہی وہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ سما لیا ہی ہر

شیء و علماء وما ارسلنا من قبک من سول

پہر کہ علم میں اور نہ بھیجے سننے سے پہلے تجھے پیغمبر

میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ تمہارا اللہ ہی وہ معبود مگر وہ واسطے اوس کے ہیں نام اس مجھے اور میں نے خذتک فاستمع لما یوحی انی ان اللہ لا بسد کیا تجکو پس سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہی تحقیق میں ہوں اللہ میں الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلوۃ لذکر ربی انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسیع کل شیء و علماء وما ارسلنا من قبک من سول

الْاَوْحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْكَ

مگر وحی کرتے تھے ہم طرف اوسکے یہ نہیں کوئی معبود مگر میں پس عبادت کرو مجھ کو

وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاصِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ

اور بچھلی والے میں یونس جسوقت گیا غصہ کھا کر پس جانا یہ کہ ہرگز نہ تنگ کیا

عَلَيْهِ فَنَدَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اوپر اوسکے پس پکارا بیچ اندھیروں کے یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر تو

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجِبْنَا

پانی ہو تجکو تحقیق میں تھا ظالموں سے پس قبول کیا ہم نے

لَهُ وَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَيْرِ وَكَذَلِكَ يُخَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

واسطے اوسکے اور نجات دی ہم نے اوسکو ہم سے اور اسے طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ وَوَاحِدٌ فَهَلْ

کہ سوائے اسکے نہیں کہ وحی کیا جاتا ہے طرف میرے یہ کہ معبود تمہارا معبود ایک ہی پس آیا

أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا

ہو تم اطاعت کرنے والے اور واسطے ہر امت کے معبود کی ہر مینے طرح عبادت کی

لِيَذَكَّرُوا وَالسَّمِ الْكُومِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمٍ

تو کہ یاد کریں نام اللہ کا اور اوس چیز کے کہ دیا ہے ہم نے اونکو چار پایوں

الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ إِلَهُ وَوَاحِدٌ فَهَلْ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ

پالے ہو اوج پس معبود تمہارا معبود اکیلا ہی پس واسطے اوسکے مطہع ہو اور خوشخبری

الْمُخْتَلِفِينَ ۝ فَتَعَلَّىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

عاجزی کرے والوں کو پس بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حق نہیں کوئی معبود مگر وہ پروردگار

الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ

عرش کرامت والے کا اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ پروردگار

الاشیاء  
مستحق  
ششم  
بیست و نهم

عَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُدُوفُ  
 عرش برتے کا اور وہ ہی اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ واسطے اوسکے ہی سب تعریف  
 الْأُولَى وَالْآخِرَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ وَكَانَ  
 دنیا میں اور آخرت میں اور واسطے اوس کے ہر حکم اور طرف اوسکے پھیرے جاوے اور مت کارو  
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا  
 ساتھ اللہ کے معبود اور کو نہیں کوئی معبود مگر وہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہی مگر  
 وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْكُرُوا  
 ذات اوسکی واسطے اوسکے ہی حکم اور طرف اوسکے پھیرے جاوے ای لوگو یاد کرو  
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرِيكُمْ مِنْ  
 نعمت اللہ کی کو اور تمہارے کیا ہی کوئی پیدا کرنے والا سو اظہار کے کہ رزق دیوے تمکو  
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاِن تَوَفَّكُنَّ اِنَّكُمْ  
 آسمان سے اور زمین سے نہیں کوئی معبود مگر وہ پس کہاں سے پھرے جاتے ہو تحقیق یہ  
 كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ  
 تھے جسوقت کہ کہا جاتا واسطے اونکے نہیں کوئی معبود مگر اللہ تکبر کرتے  
 قُلْ اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَمَا مِنْ اِلَهٍ اِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ  
 کہ سوائے اوسکے نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں اور نہیں کوئی معبود مگر اللہ ایسا  
 الْقَهَّارُ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْفًا  
 غالب پیدا کرتا ہی تمکو بیچ بیٹوں ماؤں تمہاری کے ایک پیدا بشتر  
 مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظَلَمْتُمْ ثَلَاثَ ظُلُمَاتٍ لَّهِ  
 بیچھے پیدا ایش دوسری تھے بیچ اندھیروں میں کے یہ ہی اللہ  
 رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاِن تَصْرَفُونَ  
 پروردگار تمہارا واسطے اوسکے ہی بادشاہی نہیں کوئی معبود مگر وہ پس کہاں سے پھرے جاتے ہو

ملک الفصص  
 درستی سے نہ ہو سکتا ہے  
 وفاق نام  
 لیسوی قاطر در کج سیر و سیر  
 لیسوی قاطر در کج سیر و سیر

سوق الزم  
 در بیان زود ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والے مہربان کے

مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ

اللذات غالب جاننے والے کی طرف سے بخشنے والا گناہوں کا اور قبول کرنے والا

التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

توبہ کا سخت کرنے والا عذاب کا صاحب انعام کا نہیں کوئی معبود مگر وہ

إِلَهٌ الْمَصِيدُ ۝ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۝ لَا

طرف اوسکے ہی پھر جانا یہ ہی اللہ پروردگار تمہارا پیدا کرنے والا ہر چیز کا نہیں

إِلَهٌ إِلَّا هُوَ ۝ فَإِنِ تَوَفَّكُونَ ۝ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرُّوهُ

کوئی معبود مگر وہ پس کہانتے پھرے جاتے ہو یہ ہی اللہ پروردگار تمہارا اپن برکت والا

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ لَا يَأْخُذُهُ سِنٌ وَلَا نَوْمٌ ۝

اللہ پروردگار عالموں کا وہ ہی زندہ نہیں کوئی معبود مگر وہ پس بجا رہے اوسکو

مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ ۝ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

خالص کر کے واسطے اوسکے عبادت کو سب تعریف واسطے اللہ پروردگار عالموں کے ہی

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ

کہ سوائے اُسکے نہیں کہ میں آدمی ہوں مانند وحی کیا جاتا ہے طرف میرے یکہ معبود تمہارا

إِلَهُ وَاحِدٌ ۝ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۝

معبود ایک ہی پس سیدھے چلو طرف اوسکے اور بخشش مانگو اوس سے

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ النَّكَاحَ ۝

اور وایسے ہی واسطے شرک کرنے والوں کے وہ لوگ کہ نہیں دیتے زمین زکوٰۃ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي فَشَرَّ

اور وہ ساتھ آخرت کے کافر ہیں اور وہ ہی جو شیطان آسمانوں سے

میں لکھتا ہے کہ اللہ پروردگار عالموں کا وہ ہی اللہ پروردگار تمہارا پیدا کرنے والا ہر چیز کا نہیں

لَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ○ رَبِّ

معبود اور بیچ زمین کے معبود اور وہ ہی حکمت والا جاننے والا پروردگار

لَيْسَ شَيْءٌ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ○

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ درمیان اونکے ہی اگر ہو تم یقین لانے والے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَيٌّ وَيَمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ

نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ کرتا ہی اور مارتا ہی پروردگار تمہارا اور پروردگار باپوں تمہارا

الْأَوَّلِينَ ○ فَإِن لَّهُمْ إِذَا جَاءَ تَهُمْ ذِكْرُهُمْ ○

پہلے کا پس کہاں سے ہو گا واسطے اونکے جب ویگی اونکے پاس نصیحت اونکی

فَاعْلَم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ○ وَاسْتَغْفِر لِدُنْيِكَ ○

پس جان تو یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ اور بخشش مانگ واسطے گناہ اپنے کے اور

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ○ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ○

واسطے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے اور اللہ جانتا ہی جگہ پھرنے تمہارے کی اور

ثَوْبَكُمْ ○ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ○

جگہ بننے تمہارے کی نہیں برابر رہنے والے آگ کے اور رہنے والے بہشت کے

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ○ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا

رہنے والے بہشت کے وہ ہیں مراد پانے والے اگر اوتارتے ہم اس

الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّن

قرآن کو اوپر پہاڑ کے البتہ دیکھتا تو او سکود جانے والا بھٹ جانے والا

خَشْيَةِ اللَّهِ ○ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ○

در خط کے اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم واسطے لوگوں کے

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ○

تو کہ وہ فکر کریں وہ ہی اللہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ

مذ سورۃ اللہ خان در کرم ہمارہم ۱۱  
مذ سورۃ لعل در کرم ششم بسیار بکشتہم ۱۱  
مذ سورۃ الکثر در کرم ششم بسیار بکشتہم ۱۱

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

جاننے والا پوشیدہ کا اور ظاہر کا وہ ہے بخشش کرنے والا مہربان

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ

اللہ جو نہیں کوئی معبود مگر وہ باوٹاہ پاک

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

سلامت سب عیب سے امن دینے والا گھبران غالب زبردست بگڑ والا

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ

پاک ہے اللہ کو اس چیز سے جو شریک لائے ہیں وہ ہے اللہ پیدا کرنے والا درست

الْمُصَوِّرُ قَسَمٌ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ طَيْسَةَ لَهُ مَا فِي

صورتیں بنانے والا واسطے اوستے ہیں نام اچھے پاک بیان کرتے ہیں واسطے اوستے

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

آسمانوں اور زمین کے ہے اور وہ ہے غالب حکمت والا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ اور اللہ کے پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والوں

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْ

پروردگار ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا نہیں کوئی معبود مگر وہ پس پڑھو اور

وَكِيلًا ۝ وَأَصْبِحْ عَلَىٰ مَا يِقُولُونَ وَاخْرُجْهُمْ

کارساز اور صبر کر اوپر اوسن چیز کے کہ کہتے ہیں اور چھوڑ دے اوستے

جَمِيلًا ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ هُوَ

اچھا شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے کہ

أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ

ایک ہے اللہ بے احتیاج ہے نہیں جناوٹے اور نہ جنایا اور نہیں

تصحیح الیقینہ در اکرمی خانہ رقم ۱۲

تصحیح ابن کثیر در تفسیر سورہ بقرہ ۱۱



ہو اَحَدٌ اِنْ كَاهُ نَسْتِ دَارِ وَايْنُ عَابِجُوَانِدْ

اس کے برابر کرنے والا کوئی پھر ہاتھ اوٹھائے اور یہ دعا پڑھے

بَاخْتَمِرِي بِمَا خَتَمْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ

اور خاتمہ کر میرا اوپر کہ خاتمہ کیا تو نے ساتھ اس کے بندوں اپنے نیکوں کا وہ وہ

اَخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

زمین خوف ہی اوپر اس کے اور نہ وہ غمگین ہونگے تحقیق تو ہی تعریف کیا گیا بزرگ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ شَرِّفْنَا

اور رحمت بھیجے اللہ اوپر محمد کے اور اوپر آل محمد کے اور سلام بھیجے اللہ میرے شرف کر تو ہو

بِكَلِمَاتِكَ الْكَرِيمَةِ وَعِزِّزْنَا بِكَلِمَاتِكَ الْقَدِيمَةِ ثَبِّتْنَا

ساتھ کتاب اپنی بزرگ کے اور معزز کر تو ہو کہ کلام اپنے قدیم کے ثابت سکھ کر تو ہو

عَلَى قَوْمِ الْمُسْتَقْبِرِينَ نُوْرًا بِنُوْرِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اور طریق سیدھے کے روشن کر تو ہو کہ ساتھ روشنی اوسکی کے دل ہمارا اور درگاہ تو ساتھ اوسکی برکت کے

اجْعَلْهُ لَنَا حَافِظًا وَحَارِسًا مِنْ الْاَفَاتِ وَالْعَاثَاتِ

ور کر تو اوسکو واسطے ہمارے حفاظت کرنے والا اور نگہبان آفتوں سے اور بلاؤں سے

وَاللَّيَالِي وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اور نشونوں سے سفر میں اور حضر میں اور رات میں اور دن میں

وَالنَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ وَفِي جَمِيعِ اَحْوَالِنَا وَقَضَاءِ

اور سونے میں اور جاگتے میں اور سب حالوں ہمارے میں اور پوری ہونے

حَاجَاتِنَا اَللَّهُمَّ اَخْرِجْنَا مِنْ خَيْرِ السَّعَادَةِ

حاجتوں ہماری میں اللہ میرے خاتمہ کر تو ہمارا ساتھ خیر اور نیک نجاتی کے

وَلْيُصَلِّ اٰخِرُ قَوْلِنَا قَوْلَ الشَّهَادَةِ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ

اللہ چاہیے کہ ملائے آخر قول ہمارے کو قول شہادت سے اور زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں کے

# الدَّعْوَاتُ فِي يَوْمِ الْحَمِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

شروع کرنا ہو زمین ساتھ نام اللہ بخشہ والے مہربان کے اور جب کہا ابراہیم نے

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ

اور بپیر کر اس شہر کو امن والا اور رزق دے رہنے والوں اسکے کو

التَّمْرَاتِ مَنْ آمِنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ قَالَ

میوؤں سے جو کوئی ایمان لائے اور میں سے ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے کہا

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ

اور جو کوئی کفر کرے پس فائدہ دینا اور سکوت پورا پھرے بس کر دینا اور سکوت عذاب

النَّارِ وَيَسْأَلُ الْمَصِيرَ ۝ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ

آگ کے اور بڑی ہر جگہ پھر جانے کی اور جب اوشمانی ابراہیم نے بنیاد

مِنَ الْبَيْتِ وَأَسْمِعِلْ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ

سننے والے اور اسمعیل نے اور بپیر قبول کرے تحقیق تو ہی ہے

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ

اولاد ہماری سے ایک جماعت فرما بردار واسطے اپنے اور دکھا ہکو طرح عبادت کی ہم

مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

علینا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا

اور ہماری تحقیق تو ہی تو پھر آنے والا مہربان ہے اور بندہ ہلکے اور توبہ

فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

بچہ اونکے پیغمبر اونہیں سے پڑھے اور ہونکے آیتیں تیری

۝

مشق بالمعنی در کتب پائزہ ہم سبب اول «ص» در بقرہ خاصہ بجز الف بعد ر و وضو یا بعد از سوگت و در باب وضع فقط بجز الف «ص» الف بعد ر و وضو جمع مکتوب

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك

اور سکھلاوے اونکو کتاب اور حکمت اور پاک کرے اونکو تحقیق تو ہی

انت العزيز الحكيم فمن الناس من يقول

غالب حکمت والا پس بعضے لوگوں میں سے وہ شخص ہی کہتا ہے

ربنا اتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق

ای رب ہماری دنیا کے اور ہمیں واسطے اس کے بیچ آخرت کے کچھ حصہ

ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة و

اور بعض لوگوں میں سے وہ شخص ہی کہتا ہے ای رب مجھے دے دے دنیا کے نیکی اور

في الآخرة حسنة وقننا عذاب النار أولئك

بیچ آخرت کے نیکی اور بچا ہکو عذاب آگ کے سے یہ لوگ

لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب

واسطے اونکے حصہ ہی اوس چیز سے جو کیا یا اونھوں اور اللہ جلد لینے والا ہی حساب کا

قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا

کہا اونھوں ای پروردگار ہمارے صبر اور ثابت رکھ قدموں ہمار کو

وانصرنا على القوم الكافرين واذا قال ابراهيم

اور مدد دے ہکو اور قوم کافروں کے اور جب کہا ابراہیم نے

رب اني كيف يحيى الموتى قال اولم تؤمن

ای رب میرے دکھانے مجھ کو تو نہ جلاتا ہی مردوں کو کہا کیا نہیں ایمان لایا تو

قال بلى ولكن ليطمئن قلبك قال فخذ اربعة من

کہا بلکہ لایا ہوں میں اور لیکن تو کہ آرام پکڑے دل میرا کہا پس لیجا چار چار

الطير فهدهن اليك ثم اجعل على كل جبل

پانچوں سے پس سوچ پہچان رکھ طرف اپنے پھر کر دے اوپر ہر پہاڑ کے

پندرہ روز قبل از روز جمعہ

مذکورہ دعا روز جمعہ پڑھنا

مذکورہ دعا روز جمعہ پڑھنا ۱۲ صبح ہر روز ۱۲ مرتبہ پڑھنا

مداہلہ بصرہ ص ۱۱۱ ص ۱۱۲ ص ۱۱۳

مِنْهُمْ جَزَاءُ الْإِيمَانِ يَأْتِيكَ سَعْيًا وَاعْتِ

ادین سے ایک ٹکڑا پس بلا اونکو چلے آویگے تیرے پاس دوڑتے اور جان

أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آمِنَ الرَّسُولِ بِمَا أَنْزَلَ

پہ کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ایمان لایا پیغمبر ساتھ اس چیز کے کہ اتاری گئی

إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنٌ بِاللَّهِ

طرف اس کے پروردگار اس کے سے اور ایمان لائے مسلمان ہر ایک ایمان لایا ساتھ اللہ کے اور

مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ

فرشتوں اس کے کے اور کتابوں اس کے کے اور رسولوں اس کے کے نہیں جدا کرتے ہم درمیان کسی کے

مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِّحْنَا وَاطْعَنَّا عَفْرَانِكَ بِنَا

پیغمبروں اس کے سے اور کہا اونھوں نے سناہنے اور مانا ہنے بخشش تیرے میں ہمیں اور تیرے

وإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اور طرف تیرے ہی پھر جانا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جی کو مگر طاقت اس کے پر

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ بِنَا لَا تُؤَاخِذُ

واسطے اس کے ہی جو کما یا اور اوپر اس کے ہی جو کما یا اسے اور ب ہمارے مت پر ہکو

أَنْزِينَا وَأَنْخِطْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا حِمْلًا

اگر بھول گئے ہم یا جوگ گئے ہم اور ب ہمارے اور مت رکھ اوپر ہمارے بوجھ

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا

جیسا رکھا تو نے اوپر اون لوگوں کے کہ پہلے ہم سے تھے اور ب ہمارے اور مت اور ہمارے

مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاقْرَأْ وَاعْفِرْ لَنَا وَتُبْ

و چیز کہ نہیں طاقت اسطے ہمارے ساتھ اس کے اور معاف کرہے اور بخش ہکو

وَارْحَمْنَا وَقَدْ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اور رحم کرہکو تو ہی دوستدار ہمارا پس مدد دے ہکو اوپر قوم کافروں کے

مداہلہ بصرہ ص ۱۱۱ ص ۱۱۲ ص ۱۱۳

مدنی کا قال عمران در نوع نم ۱۱ مہر اولیہ الف ب و د و ع و ف و ز ۱۱

۱۱

۱۱

الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ

در مضبوط لوگ بیچ علم کے کہتے ہیں ایمان لانے ہم ساتھ اوسکے ہر ایک نزدیک

رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تَزِغْ

رب ہمارے سے اور ہمیں نصیحت کیونے مگر صاحب عقل کے اور پروردگار ہمارے سے مت بھگ

قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ

دلون ہمارے کو سچھے اسکے کہ راہ دکھائی تو نے بھگو اور جسے دال بھگو اپنے پاس سے

رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَمِعَ

رحمت تحقیق تو ہی دے دالنے والا اور رب ہمارے تحقیق تو اکٹھا کر دیا

النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَافُ الْمُبَادَلَةَ

لوگو کو اوس دن کہ نہیں شک بیچ اوسکے تحقیق اللہ نہیں خلاف کرتا و عدسے کو

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وہ لوگ جو کہتے ہیں اور رب ہمارے تحقیق ہم ایمان لانے میں بخش واسطے ہمارے گناہ ہمارے

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ

اور بچا بھگو عذاب آگ کے سے وہ جو صبر کرنے والے ہیں اور سچھے

وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

اور پرہیزگاری کرنے والے اور سچھے کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بیچ رات کے

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ

گواہی دی اللہ نے یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ اور گواہی دی فرشتوں نے اور علم والوں نے

فَأَمَّا بِالْقِسْطِ إِلَّا إِلَهُهُمُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

کہ قائم ہیں ساتھ انصاف کے نہیں کوئی معبود مگر وہ غالب حکمت والا

هَذَا كَدَعَاكَ يَا رَبِّهِ قَالَ رَبِّهِ لِي مِنْ

تحقیق اوس جگہ پکارا دکریا نے پروردگار اپنے کو کہا اور پروردگار میرے دال واسطے میرے

فیوم الجمعہ

لَدُنْكَ رِيَّةٌ طَيِّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

نزدیک اپنے سے اولاد پاکیزہ تحقیق تو سنتے والا ہر دعا کا

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُتِبْ

ای پروردگار ہمارے ایمان لائے ہم ساتھ اس چیز کے کہ تو ناری ہوئے اور پیروی کی ہم نے رسول کی ہر کلمہ

مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا

ساتھ شاہدوں کے اور ہمارے بخش دے واسطے ہمارے گناہ ہمارے اور زیادتی ہماری

فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

پہنچ کام ہمارے کے اور ثابت رکھ قدم ہمارے اور مدد دے ہم کو اور قوم

الْكُفْرِينَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا يُجَادَى

کافروں کے اور پروردگار ہمارے نہیں پیدا کیا تو نے یہ بے فائدہ پالی ہو تجھ کو

فَقِنَاعَ عَذَابِ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلُ النَّارَ

پس بچا ہم کو عذاب آگ کے سے اور ہمارے تحقیق تو جس کو داخل کرے آگ میں

فَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنَ النَّارِ وَمَا لِّلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

پس تحقیق رسوا کیا تو نے او کو اور نہیں واسطے ظالموں کے کوئی مددگار

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمِعُكَ مَا نُنَادِي بِهَا لِيُحْكُمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكُفْرَانِ

اور ہمارے تحقیق ہم نے سنا پکارنے والا پکارتا ہی طرف ایمان کے یہ کہ

أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ

ایمان لاؤ ساتھ رب اپنے کے پس ایمان لائے ہم اور بھلی بخش ہم کو گناہ ہمارے اور دور

عَنْ سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا

ہم سے بُرائیاں ہماری اور مار ہم کو ساتھ نیک بختوں کے ای پروردگار ہمارے اور مدد

وَعْدَتَنَا عَلَى سُبُلِكَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا إِيمَانًا

وعدہ کیا تو نے ہم سے اور پیغمبروں اپنے کے اور مت رسوا کر ہم کو دن قیامت کے تحقیق تو

مذہب کی کجی سے پروردگار ۱۱۱ درود جمعہ کی کتب مشتمل ہے اور ہر صبح ۱۱۱ بار پڑھ کر صبح کو اور شام کو ۱۱۱ بار پڑھ کر شام کو اور رات کو ۱۱۱ بار پڑھ کر رات کو

بائیں جانب ہر روز صبح اور شام اور رات ۱۱۱ بار پڑھ کر







وَنَجِدُكُمْ مَّا وَعَدَدْنَا بِكُمْ حَقًّا قَالُوا رَبَّنَا اجْعَلْنَا

پایانے جو کچھ وعدہ دیا تھا پروردگار تمہارے سچ کہتے ہیں اور رب ہمارے مت کر ہو

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ قَدْ جَاءَتْكَ سُلُوسٌ مِّنَ الْغَوِيَّةِ

ساتھ قوم ظالموں کے تحقیق آئے تھے بھیجے ہوئے پروردگار ہمارے ساتھ ہیں

فَهَلْ لَنَا مِن شَفْعَاءَ فَيُشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرْتَدِّعُ

پس آیا میں واسطے ہمارے سفارش کرنے والے ہیں شفاعت کریں واسطے ہمارے یا پھرے جائیں ہم پس

غَيْرِ الزُّبَيْرِ كَمَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ

سولے اوسکے جو تھے عمل کرتے تحقیق ٹوٹا دیا اوتھوں نے جانوں اپنی کو اور کھو گیا

عَنهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اوتے جو تھے باندھ لیتے تحقیق باندھ لیا ہے اوپر اللہ کے جھوٹ

إِن عَدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِيثَاقًا

اگر پھر آدین ہم بیچ دین تمہارے کے پیچھے اسکے کہ نجات دے ہو اللہ نے اوس سے اور زمین

لَكُمْ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا

لائق ہی ہو کہ پھر آدین ہم بیچ اوسکے مگر جو چاہے اللہ پروردگار ہمارا

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

سما لیا ہی پروردگار ہمارے ہر چیز کو علم میں اوپر اللہ کے توکل کیا ہے

رَبَّنَا فَتُبَيِّنْ لَنَا بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ

ای رب ہمارے ملکر درمیان ہمارے اور درمیان قوم ہمارے ساتھ حق کے اور تو بہتر

الْفَتِينِ ۝ قَالُوا إِنَّا لَأِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا نَقُومُ

علم کرنے والا ہی کہا اوتھوں نے تحقیق ہم طرف پروردگار اپنے کے پھر جائے والے ہیں اور ہمیں عیب نہیں آتا

مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ تَسَاءَلُونَ

میں کہ یہ کہ ایمان لائے ہم ساتھ نشانیوں رب اپنے کے جب آئیں ہمارے پاس

میں نے تم کو سزا دینی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ جھوٹ کیا ہے اور تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے

میں نے تم کو سزا دینی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے اور تم نے اللہ کے ساتھ جھوٹ کیا ہے

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہرگز نہ دیکھ سکے گا تو جگہ دیکھ سکے گا جس جگہ اپنی پر بس لبتہ دیکھ سکے گا

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہرگز نہ دیکھ سکے گا تو جگہ دیکھ سکے گا

رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُسْلِمِينَ ۝ وَلَا

ایر پھارنے وال اور ہمارے صبر اور مار ہو مسلمان کر کے اور صبر

جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ انز

ایا موسیٰ واسطے وقت ہمارے اور کلام کیا اوس سے رب اوس کے کہا ای بی بیہ دکھا

انظر اليك قال لن ترني ولكن انظر الى الجب

دیکھو میں طرف ہرے کہا اللہ نے ہرگز نہ دیکھ سکے گا تو جگہ دیکھ سکے گا

فان استقر مكاثه فسوف تراني فلما جعل له

بس اگر قائم ہے جگہ اپنی پر بس لبتہ دیکھ سکے گا جس جگہ اپنی پر بس لبتہ دیکھ سکے گا

للجبل جعله دكا وخر موسى صعبا قالوا لن

طرف ہمارے کر دیا اوس کو ریزہ ریزہ اور کر پڑا موسیٰ بیہوش کہا اوتھون سے

نرى حنارا بنا ويغفر لنا لنكونن من الخيرون

اگر نہ دیکھ کر دیکھا ہمارا اور نہ بخشے گا ہمارے اللہ ہو جاوے ہم لو ٹاپا ہنے والوں سے

قال رب اغفر لي ولاخني وادخلنا في رحمتك

کہا اے پروردگار میرے بخش مجھ اور بھائی میرے کو اور داخل کر ہو کھو رحمت اپنی کے

وانت ارحم الراحمين ۝ انت ولينا فاغفر لنا

اور تو بہتر رحم کرنے والا ہر سب تم کرنے والوں سے تو ہی دوست ہمارا پس بخش ہو

وارحمنا وانت خير الغفرين ۝ ربنا لا تجعلنا

اور رحم کر ہو اور تو بہتر بخشنے والا ہو ای رب ہمارے رحمت کر ہو

فتنة للقوم الظالمين ۝ وبتنا برحمتك من

فتنہ واسطے قوم ظالموں کے اور نجات دے ہو ساتھ رحمت اپنی کے

القوم الكافرين ۝ وقال موسى ربنا انك

قوم کافروں سے اور کہا موسیٰ نے ای رب ہمارے بخشو تو

اتیت فرعون وملا زینة واما لک فی الحیوة

دیا فرعون کو اور سرداروں اور کے کو آرایش اور مال بیچ زندگانی

الدنیا ربنا لیضلو عن سبیلک ربنا طیس

دنیا کے اور بھارے تو کہ گمراہ کریں راہ تیری سے اور بھارے میں ڈال

علیٰ أموالهم واشد علی قلوبهم فلا یؤمنوا

اور مالوں اور تنگے کے اور سختی ڈال اوپر دلوں اور تنگے کے پس ایمان لائیں

حتى یرو العذاب الالیم ونذی نوح رابیه

یہا تک کہ دیکھیں عذاب درد دینے والا اور پکارا نوح نے پروردگار اپنے

فقال رب ان ابنی من اهلہ وان وعدک

پس کہا ای پروردگار میرے تحقیق بیٹا میرا اہل میرے سے اور تحقیق وعدہ تیرا

الحق وانت احکم الحکمین قال رب

سچ ہی اور تو بہتر حکم کرنے والا ہی سب کرنے والوں سے کہا ای پروردگار میرے

انی اعوذ بک ان اسئک مالیس لی به

تحقیق میں پناہ پکڑتا ہوں ساتھ تیرے یہ کہ سوال کرو نہیں تجھ سے چیز کہ نہیں مج کو ساتھ اور کے

علم ولا تغفر لی وترحمنی اکن من

علم اور اگر نہ بخشے گا تو مج کو اور نہ رحم کرے گا تو مج کو ہو جاؤں گا میں

الخبیرین قال رب قد اتیتنی من الملک

تو مہا پانے والوں سے ای پروردگار میرے تحقیق دی تو نے مج کو کچھ بادشاہی اور

علت من تاویل الاحادیث فاطر السموات

سکھائی تو نے مج کو تعبیر باتوں کی یعنی خوابوں کی ای پیدا کرنے والے آسمانوں کے

والارض انت ولی فی الدنیا والاخرۃ

اور زمین کے تو ہی ہی دوست میرا سچ دنیا کے اور آخرت کے

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو اور سرداروں اور کے کو آرایش اور مال بیچ زندگانی دے اور دنیا کے اور بھارے تو کہ گمراہ کریں راہ تیری سے اور بھارے میں ڈال اور مالوں اور تنگے کے اور سختی ڈال اوپر دلوں اور تنگے کے پس ایمان لائیں یہا تک کہ دیکھیں عذاب درد دینے والا اور پکارا نوح نے پروردگار اپنے پس کہا ای پروردگار میرے تحقیق بیٹا میرا اہل میرے سے اور تحقیق وعدہ تیرا سچ ہی اور تو بہتر حکم کرنے والا ہی سب کرنے والوں سے کہا ای پروردگار میرے انی اعوذ بک ان اسئک مالیس لی به تحقیق میں پناہ پکڑتا ہوں ساتھ تیرے یہ کہ سوال کرو نہیں تجھ سے چیز کہ نہیں مج کو ساتھ اور کے علم ولا تغفر لی وترحمنی اکن من علم اور اگر نہ بخشے گا تو مج کو اور نہ رحم کرے گا تو مج کو ہو جاؤں گا میں الخبیرین قال رب قد اتیتنی من الملک تو مہا پانے والوں سے ای پروردگار میرے تحقیق دی تو نے مج کو کچھ بادشاہی اور علت من تاویل الاحادیث فاطر السموات سکھائی تو نے مج کو تعبیر باتوں کی یعنی خوابوں کی ای پیدا کرنے والے آسمانوں کے والارض انت ولی فی الدنیا والاخرۃ اور زمین کے تو ہی ہی دوست میرا سچ دنیا کے اور آخرت کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

مارجھو مطیع اپنا اور ملا دے ساتھ صالحوں کے

اِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا

ابراہیم نے اور رب میرے کہ اس شہر کو امن والا اور ایک

وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا صَنَامَ رَبِّ انْتَهَى

اور بیٹوں میرے کو اس سے کہ عبادت کریں ہم بتوں کو ای پروردگار میرے تحقیق انھوں نے

كثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي

بہتوں کو لو کون میں سے پس جو کوئی پیروی کرے میری میں تحقیق وہ مجھ سے

عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

نافرمانی کی میری پس تحقیق تو بخشنے والا مہربان ہے اور رب میرے تحقیق میں بسان

مِن ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ

بعضی اولاد اپنی بیج میدان بن کھیتی والے کے نزدیک مہربان

الْحَمْدُ لَكُمْ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

باجہت کے اوپروردگار ہمارے تو کہ قائم رکھیں نماز کو پس کہ

فَلْيَجْعَلَ أَفْعَادُ

لو کون کے کہ چھلکتے ہوں طرف اونکے اور رزق دے اونکو بیوہوں

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خَفَوْا

تو کہ وہ شکر کریں سے رب ہمارے تحقیق تو جانتا ہی جو چھپاتے ہیں

نُعَلِّزُ وَمَا خَفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

ظاہر کرتے ہیں ہم اور زمین پوشیدہ اوپر اللہ کے کچھ بیچ زمین کے

فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي

بیچ آسمان کے سب تعریف واسطے اللہ کے جو دینے بخشا جو کہ

الکِبْرِ اسْمَعِيلَ وَاسْتَحَقَّ اِنْ يَكُنِّي لَسَمِيعِ الدُّعَاءِ ۝

بمذہب کے اسمعیل اور استحقاق پروردگار میرا لقب رکھنے والا دعا کا

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقَدِّمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۝

ای رب میرے کو بجگو قائم رکھنے والا نماز کا اور اولاد میری سے

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ۝

ای رب ہمارا اور قبول کر دعا میری ای رب میرے بخش بجگو اور مان پاپ میرے کو

وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝ رَبَّنَا

اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہووے حساب ای رب ہمارا

اخْرِزْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّا يَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِع

بجیل سے ہمارا ایک وقت نزدیک تک کہ قبول کریں ہم پکارنے تیرے کے اور پیروی کر

الرُّسُلَ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا

رسولوں کی کیا نہ تھے تم کہ قسم کھاتے تھے پہلے اس سے کہ نہیں

أَكْرَمُنَّ ذَوَالِ ۝ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ كَذِبٌ شَرٌّ كَاؤُنَا

دائے ہمارا بگڑواں ہیں کے ای پروردگار ہمارے یہ ہیں شریک ہمارے

الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ

وہ جو تھے ہم پکارتے سوائے تیرے پس ڈالینگے طرف اون کے

الْقَوْلَ إِنَّا كُذِّبُونَ ۝ وَقَالَ رَبُّ رَحْمَةً

بات تحقیق تم البتہ جھوٹے ہو اور کہ ای پروردگار میرے رحم کر لوں تو کہو

كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝ وَقَالَ رَبُّ ادْخُلْنِي

جیسا بالاد اوتھوں نے بجگو چھوٹا اور کہ ای رب میرے داخل کر جو

مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ

داخل کرنا سچا اور نکال بجگو نکالنا سچ

۱۲ سورہ نوح نوح ۱۲  
۱۳ سورہ نوح نوح ۱۳  
۱۴ سورہ نوح نوح ۱۴  
۱۵ سورہ نوح نوح ۱۵  
۱۶ سورہ نوح نوح ۱۶  
۱۷ سورہ نوح نوح ۱۷  
۱۸ سورہ نوح نوح ۱۸  
۱۹ سورہ نوح نوح ۱۹  
۲۰ سورہ نوح نوح ۲۰  
۲۱ سورہ نوح نوح ۲۱  
۲۲ سورہ نوح نوح ۲۲  
۲۳ سورہ نوح نوح ۲۳  
۲۴ سورہ نوح نوح ۲۴  
۲۵ سورہ نوح نوح ۲۵  
۲۶ سورہ نوح نوح ۲۶  
۲۷ سورہ نوح نوح ۲۷  
۲۸ سورہ نوح نوح ۲۸  
۲۹ سورہ نوح نوح ۲۹  
۳۰ سورہ نوح نوح ۳۰

۱۱ ص ۱۲ ص ۱۳ ص ۱۴ ص ۱۵ ص ۱۶ ص ۱۷ ص ۱۸ ص ۱۹ ص ۲۰ ص ۲۱ ص ۲۲ ص ۲۳ ص ۲۴ ص ۲۵ ص ۲۶ ص ۲۷ ص ۲۸ ص ۲۹ ص ۳۰ ص ۳۱ ص ۳۲ ص ۳۳ ص ۳۴ ص ۳۵ ص ۳۶ ص ۳۷ ص ۳۸ ص ۳۹ ص ۴۰ ص ۴۱ ص ۴۲ ص ۴۳ ص ۴۴ ص ۴۵ ص ۴۶ ص ۴۷ ص ۴۸ ص ۴۹ ص ۵۰ ص ۵۱ ص ۵۲ ص ۵۳ ص ۵۴ ص ۵۵ ص ۵۶ ص ۵۷ ص ۵۸ ص ۵۹ ص ۶۰ ص ۶۱ ص ۶۲ ص ۶۳ ص ۶۴ ص ۶۵ ص ۶۶ ص ۶۷ ص ۶۸ ص ۶۹ ص ۷۰ ص ۷۱ ص ۷۲ ص ۷۳ ص ۷۴ ص ۷۵ ص ۷۶ ص ۷۷ ص ۷۸ ص ۷۹ ص ۸۰ ص ۸۱ ص ۸۲ ص ۸۳ ص ۸۴ ص ۸۵ ص ۸۶ ص ۸۷ ص ۸۸ ص ۸۹ ص ۹۰ ص ۹۱ ص ۹۲ ص ۹۳ ص ۹۴ ص ۹۵ ص ۹۶ ص ۹۷ ص ۹۸ ص ۹۹ ص ۱۰۰ ص

وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا صٰدِقًا وَرِيءًا

اور کرو اسے میرے نزدیک اپنے سے غیب مدد دینے والا اور کون

سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوٰ

پاک ہے رب ہمارا تحقیق ہی وعدہ رب ہمارے کا البتہ کہ

رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهِيَ لَنَا مِيزٌ

ای رب ہمارے سے ہمارے پاس اپنے سے رحمت اور تیار کرو اسے ہمارے

اَمْرِنَا رَشْدًا ۝ رَبَّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کام ہمارا بھلائی سے پروردگار ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا ہی

لَنْ نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطْنَا

ہرگز نہ پکاریں گے ہم سوائے اس کے کسی معبود کو البتہ تحقیق کہی ہم نے ادا سوقت بات زیادہ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي

کہا اسے رب میرے گھولنے واسطے میرے سینہ میرا اور آسان کرو واسطے میرے کام میرا

وَاحْلِلْ لِي لِسًا يُقَالُ لِي ۝ وَيَقْفُوْا قَوْلِي

اور گھولنے گروہ زبان میری سے تو کہ بھین بات میری

وَأَجْعَلْ لِي وِزِيْرًا مِّنْ اٰهْلِ بَيْتِي

اور کرو واسطے میرے وزیر اہل میرے سے گروہ بھائی میرا

قَالَ رَبَّنَا اِنَّا خَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا وَاَنْ

کہا دونوں نے ای رب ہمارا تحقیق ہم ڈرتے ہیں یہ کہ جلدی کرے اوپر ہمارے پیادہ کہ

تَطْعَمَ ۝ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ اَيُّوْسٰى ۝ قَالَ رَبُّنَا

سرکشی کرے کہا معذرو تحقیق میں ہوں پروردگار تمہارا اویوسی کا رب ہمارا

الَّذِيْ اَعْطٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰى

وہ ہی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر راہ دکھائی



مجلس در کتب کتب مشتمل ۱۱ مجلس در کتب کتب مشتمل ۱۱ مجلس در کتب کتب مشتمل ۱۱

الْمُزِيلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ انظُرْ نِي مَا كُنْتُ أَحْسِبُ

اوتارنے والا ہے کہا ای پروردگار میرے عداوت سے کیا ہے اور میرے گناہوں سے کیا ہے

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

کہ کون ہی پروردگار آسمانوں ساتون کا اور پروردگار عرش

الْعَظِيمِ ۝ قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تَرِيئِي مَا يُونَعِدُ وَيَكُونُ

برسے کا کہ ای رب میرے دکھلا دے مجھ کو جو وعدے جانتے ہیں

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَقُلْ رَبِّ

ای پروردگار میرے پس مت کیجیو مجھ کو قوم ظالمون کے اور کہ ای پروردگار

أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ

پناہ مانگتا ہوں میں سا تھیرے وسوسہ ڈالنے شیطانوں کے سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھے

رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ

ای رب میرے اس سے کہ حاضر ہوں میرے پاس یہاں تک کہ جب اوسے اوٹھیں سے ایک کو

الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَذْنَا

موت کہتا ہی ای رب میرے پھر مجھ کو طرف دنیا کے کہیں گے اسے رب ہمارے غالب آئی

عَلَيْنَا نَشْفِقُ نُنَاوِكُنَا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

اوپر ہمارے بڑبختی ہماری اور تجھے ہم قوم گمراہ ای پروردگار ہمارے گناہوں سے

مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

اس سے پس اگر پھرینگے ہم پس تحقیق ہم ظالم ہیں ای پروردگار ہمارے گناہوں سے اور ہمارے

وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝ وَقُلْ رَبِّ

اور رحم کر مجھ کو اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے اور کہ ای پروردگار

اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝

بخش اور رحم کر اور تو بہت بہتر رحم کرنے والا ہے



وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُنزِلْ عَلَيْنَا

اور کہا اون لوگوں نے کہ ہمیں امید رکھتے ملاقات ہماری کی کیوں نہ اوتارے گئے اور ہمارے

الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي

فرشتے یاد دیکھ لیں ہم پروردگار اپنے کو تحقیق تکبر کیا ہی اور انھوں نے بیج

أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۚ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

جیون اپنے لگے اور سرکشی کی سرکشی بڑی ای پروردگار ہمارے بھرنے سے

عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۚ إِنَّهَا

عذاب دوزخ کا تحقیق عذاب اوسکا ہی لازم رہنے والا تحقیق وہ

سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۚ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ

بری ہی جگہ قرار کی اور رہنے کی ای رب ہمارے بخشش ہمکو

أَرْضٍ وَارِثًا وَذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

ہی جیون ہماری سے اور اولاد ہماری سے خلی آنکھوں کی اور کر ہمکو پرہیزگاروں کا

إِنَّمَا مَا ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۚ

پیشوا کہا اسے رب میرے تحقیق میں ڈرتا ہوں اس سے کہ جھٹلاؤ میں مجکو

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۚ إِنَّا

کہا اور انھوں نے ہمیں بچھڑے ہمکو تحقیق ہم طرف رب اپنے کے پھر جائے والے ہیں تحقیق ہم

نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا ۚ إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ

امید رکھتے ہیں یہ کہ بخش دے واسطے ہمارے رب ہمارا گناہ ہمارے اسواسطے کہ میں ہم اول

الْمُؤْمِنِينَ ۚ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي

ایمان لانے والے ای پروردگار میرے بخشش مجکو حکم اور ملا دے مجکو

بِالضَّلِيلِينَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ ۚ

ساتھ صالحوں کے کہا لوح نے ای پروردگار میرے تحقیق قوم میری نے جھٹلایا مجکو

سورۃ الفرقان فاتحہ شروع اول سیارہ نور دم ۱۲ ص در شروع ہمارم ۱۱ ص جامی گیر در شروع مذکور ۱۱ ص سورۃ الشعراء اور شروع ششم ۱۲ ص در شروع دہم ۱۳



مَدِينٍ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

مدین کے کہا نزدیک ہی پروردگار میرا یہ کہ دکھلاوے مجکو راہ سیدھی

فَقَالَ رَبِّي لِمَا نَزَّلْتَنِي مِنَ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝ قَالَ رَبِّ

پس کہا اور رب میرے تحقیق تین واسطے اوس چیز کے کہ اوتاری تو نے طرف میرے بھلائی سے محتاج ہوں کہا اور رب

أَنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يُقْتُلُونِ ۝

تحقیق مار ڈالا ہی میں نے اونہیں سے ایک شخص کو پس ڈرتا ہوں نہیں یہ کہ مار ڈالیں مجکو اور

قَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ

کہا موسیٰ نے پروردگار میرا خوب جانتا ہی اوسکو کہ آیا ہی ہدایت نزدیک آسکتے

وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

اور اوس شخص کو کہ ہوگی واسطے اوسکے عاقبت اس گھر کی تحقیق نہیں فلاح پاکتے ظالم لوگ

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ

اور رب ہمارے کیوں بھیجا تو نے طرف ہمارے پیغمبر پس پیروی کرنے ہم نشانیوں تیر کی

وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

اور ہوتے ہم ایمان والوں سے اور جب پڑھا جاتا ہی اوپر اوسکے قرآن

قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ اوسکے تحقیق سچ ہی رب ہمار کی طرف سے تحقیق تھے ہم پہلے اس سے

مُسْلِمِينَ ۝ رَبَّنَا هُوَ لَآئِلَ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ

مسلمان سے رہا ہمار یہ لوگ ہیں جن کو گراوا کیا تھا ہم نے گراہ کیا ہم نے اونکو

كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۝

جیسا گراہ ہوئے تھے ہم بیزاری کی ہم نے اونسے توجہ ہو کر طرف تیر سے نہ تھے ہمکو عبادت کرنے

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝

ہا لو طس نے اور رب میرے مدد سے مجکو اوپر قوم مفسدوں کے

سورۃ القصص ۱۱۳  
سورۃ القصص ۱۱۴  
سورۃ القصص ۱۱۵  
سورۃ القصص ۱۱۶  
سورۃ القصص ۱۱۷  
سورۃ القصص ۱۱۸  
سورۃ القصص ۱۱۹  
سورۃ القصص ۱۲۰  
سورۃ القصص ۱۲۱  
سورۃ القصص ۱۲۲  
سورۃ القصص ۱۲۳  
سورۃ القصص ۱۲۴  
سورۃ القصص ۱۲۵  
سورۃ القصص ۱۲۶  
سورۃ القصص ۱۲۷  
سورۃ القصص ۱۲۸  
سورۃ القصص ۱۲۹  
سورۃ القصص ۱۳۰  
سورۃ القصص ۱۳۱  
سورۃ القصص ۱۳۲  
سورۃ القصص ۱۳۳  
سورۃ القصص ۱۳۴  
سورۃ القصص ۱۳۵  
سورۃ القصص ۱۳۶  
سورۃ القصص ۱۳۷  
سورۃ القصص ۱۳۸  
سورۃ القصص ۱۳۹  
سورۃ القصص ۱۴۰  
سورۃ القصص ۱۴۱  
سورۃ القصص ۱۴۲  
سورۃ القصص ۱۴۳  
سورۃ القصص ۱۴۴  
سورۃ القصص ۱۴۵  
سورۃ القصص ۱۴۶  
سورۃ القصص ۱۴۷  
سورۃ القصص ۱۴۸  
سورۃ القصص ۱۴۹  
سورۃ القصص ۱۵۰  
سورۃ القصص ۱۵۱  
سورۃ القصص ۱۵۲  
سورۃ القصص ۱۵۳  
سورۃ القصص ۱۵۴  
سورۃ القصص ۱۵۵  
سورۃ القصص ۱۵۶  
سورۃ القصص ۱۵۷  
سورۃ القصص ۱۵۸  
سورۃ القصص ۱۵۹  
سورۃ القصص ۱۶۰  
سورۃ القصص ۱۶۱  
سورۃ القصص ۱۶۲  
سورۃ القصص ۱۶۳  
سورۃ القصص ۱۶۴  
سورۃ القصص ۱۶۵  
سورۃ القصص ۱۶۶  
سورۃ القصص ۱۶۷  
سورۃ القصص ۱۶۸  
سورۃ القصص ۱۶۹  
سورۃ القصص ۱۷۰  
سورۃ القصص ۱۷۱  
سورۃ القصص ۱۷۲  
سورۃ القصص ۱۷۳  
سورۃ القصص ۱۷۴  
سورۃ القصص ۱۷۵  
سورۃ القصص ۱۷۶  
سورۃ القصص ۱۷۷  
سورۃ القصص ۱۷۸  
سورۃ القصص ۱۷۹  
سورۃ القصص ۱۸۰  
سورۃ القصص ۱۸۱  
سورۃ القصص ۱۸۲  
سورۃ القصص ۱۸۳  
سورۃ القصص ۱۸۴  
سورۃ القصص ۱۸۵  
سورۃ القصص ۱۸۶  
سورۃ القصص ۱۸۷  
سورۃ القصص ۱۸۸  
سورۃ القصص ۱۸۹  
سورۃ القصص ۱۹۰  
سورۃ القصص ۱۹۱  
سورۃ القصص ۱۹۲  
سورۃ القصص ۱۹۳  
سورۃ القصص ۱۹۴  
سورۃ القصص ۱۹۵  
سورۃ القصص ۱۹۶  
سورۃ القصص ۱۹۷  
سورۃ القصص ۱۹۸  
سورۃ القصص ۱۹۹  
سورۃ القصص ۲۰۰

مد سواۃ جمع البی و در کوی یا ترمیم پیشیا اور بست یلم ۱۱ مد سواۃ لاجرا بست کوی بوجیم پیشیا اور بست یلم ۱۱ مد سواۃ لاجرا بست کوی بوجیم پیشیا اور بست یلم ۱۱ مد سواۃ لاجرا بست کوی بوجیم پیشیا اور بست یلم ۱۱

رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَ سَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا لَعَلَّنا نَاسُوا

ای رب ہمارے دیکھا ہننے اور سنا ہننے پس پھر بھیج ہم کو کہ عمل کریں اور ہمے متفق ہم سے پھر

وَقَالَ رَبُّنَا ابْنَا اِنَّا اطعنا ساداتنا و كبرنا عننا فاصونا

اور ہمیں گے ای رب ہمارے تحقیق ہننے فرمانبرداری کی پر سرداروں نے اپنے کی اور بڑوں نے اپنے کی اور

السَّيِّئَاتِ ۝ رَبَّنَا انْتَهَمِ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ

بھلوراد سے ای رب ہمارے دسے اونکو دو گنا عذاب سے اور

الْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝ رَبَّنَا ابْعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَ

لعنت کر اونکو لعنت بڑی ای رب ہمارے دوری دال درمیان سفر ہمارے کے اور

ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُم اَحَادِيثَ وَمَزَقْنَهُمْ

ظلم کیا اوھوں نے جانوں اپنی کو پس کر دیا ہمیں اونکو بائین اور ٹکڑے ٹکڑے کی ہننے

كُلَّ مِمَّنْ ذَكَرَ فِي ذٰلِكَ لَا يَتْلُو صَبًا يَشْكُرُ وَ قُلْ

نہایت ٹکڑے ٹکڑے کرنا تحقیق ہننے اسکے البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر میر کہ بولا شکر کرتے ہر کے

يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا لَمْ يَفْتِنَا بِالْحَرِّ وَهُوَ الْفِتْحُ

کہ جمع کر گیا سب کہ رب ہمارا پھر حکم کر گیا درمیان ساتھ حق کے اور وہ سکر کرنے والا

الْعَالِيْمُ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ

جاننے والا اور ہمیں گے سب تعریف واسطے اللہ کے ہی جس نے دور کیا ہم سے غم

اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝ الَّذِي اَحْلٰنَا لِلْمَقَامِ

تحقیق پروردگار ہمارا البتہ بخشنے والا قدرت دان ہی جس نے اتارا ہر کوئی گھر ہمیں رہنے

مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا

مہربانی اپنی سے نہیں لگتی ہر کوئی ہر کوئی اور نہیں لگتی ہر کوئی ہر کوئی

لُغُوْبٌ ۝ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا لَعْمَلِ صَلٰتِكُمْ لِنَعْمَلِ

مانگی ای پروردگار ہمارے کمال ہر کوئی کو ہم اپنے سوا اوکے کہ گئے ہم عمل کر

اَوْ لَمْ نَعْمَرَ كُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنِ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ

فَذُو قُوَامًا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرَةٍ ۝ قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا اِنَّا

اَلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝ وَمَا عَلَيْنَا الْاَلْبَابُ الْمُبِينِ

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۝ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا

الْحٰجِرُونَ ۝ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّ لَآ اِنْفُونَ

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا

قَطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝ قَالَ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَهَبْ لِي

مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِي اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

قَالُوا رَبَّنَا مَرْقَدًا ۝ لَنَا هٰذَا فِرْدَوْسٌ عَذَابًا ۝

النَّارِ ۝ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ۝

فَاَعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

النَّارِ ۝ رَبَّنَا لَا تُفِضْ لَنَا فِي هٰذَا نَارًا وَلَا تَلْطَمْنَا فِيهَا ۝

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءِيفٌ رَّحِيمٌ ۝

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءِيفٌ رَّحِيمٌ ۝

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءِيفٌ رَّحِيمٌ ۝

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اور پورے ہمارے' and 'اور ہمیں'.

Handwritten note: کیا نہیں عمر دی تھی تمکو اور سفید کر نصیحت کرے بیچ اوسکے نصیحت کرے والی اور آیا تھا تمکو اس کے لئے

Handwritten note: پس چلو پس نہیں واسطے ظالموں کے کوئی مددگار کہا اور ظالموں پروردگار ہمارا جانا اور تمکو

Handwritten note: طرف تمہارے البتہ رسول ہیں اور نہیں اور ہمارے مگر پہنچا دینا ظاہر

Handwritten note: سلام کہا جاویگا پروردگار مہربان کی طرف سے اور جدا ہو جاؤ آج کے دن اور

Handwritten note: پس ثابت ہوا اور ہمارے قول پروردگار ہمارا کیا تحقیق البتہ چلنے والے ہیں عذاب

Handwritten note: اور رب میرے بخش تجکو اولاد نیکوں میں سے اور کہا اور تمکو اور رب ہمارے جلدی ہے تمکو

Handwritten note: چھٹی ہماری پہلے دن حساب کے سے کہا اور رب میرے بخش تجکو اور دے تجکو

Handwritten note: ملک کہ نہیں لائق ہو واسطے کسی کے بعد میرے تحقیق تو ہی بخشنے والا

Handwritten note: کہنے اور ہمارے جسے یہ پہلے تیار کر رکھا ہے واسطے ہمارے پس زیادہ دیکھو عذاب دو گنا بیچ

Handwritten note: آگ کے اور پروردگار ہمارے سما لیا تو نے ہر چیز کو رحمت کر اور علم کر

Handwritten note: پس بخشش کرو واسطے اون لوگوں کے کہ توبہ کی اور پیروی کی راہ تیری کی اور بچاؤ نکو عذاب

Handwritten note: اور ہمارے جسے یہ پہلے تیار کر رکھا ہے واسطے ہمارے پس زیادہ دیکھو عذاب دو گنا بیچ

Handwritten note: اور ہمارے جسے یہ پہلے تیار کر رکھا ہے واسطے ہمارے پس زیادہ دیکھو عذاب دو گنا بیچ

الْحَكِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ

دوزخ سے ای پروردگار ہمارے اور داخل کر اور جو بہشتوں میں ہیں جس کی میں جو وعدہ دیا ہے

وَمَنْ صَلَّى مِنْ آبَائِهِمْ وَأَنْزَلَ جَعْدًا مِنْهُمْ إِنَّكَ

اور جو لائق بہشت کے ہیں باپوں اور نکلے سے اور بی بیوں اور اولاد ان کی سے جسے تحقیق

أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَهُمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَوَسَّلَ

تو سے غالب حکمت والا اور بچا او کو برائیوں سے اور جس کو بچا یا تو نے

السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

برائیوں سے اوس دن پس تحقیق ہر بانی کی تو نے اوس کو اور یہ بات وہی ہی ہوا یا پانا بڑا

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اثْنَتَيْنِ وَأَجِيتْنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا

کہنے ای رب ہمارے مازاتو نے ہم کو دو بار اور زندہ کیا تو نے ہم کو دو بار پس اقرار کیا میں نے

بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ

ساتھ گناہوں لینے کے پس کیا ہی طرف نکلنے کے راہ اور کہا فرعون نے

ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ

چھوڑ دو مجھ کو مار ڈالوں میں موسیٰ کو اور چاہیے کہ پکارے وہ رب لینے کو تحقیق میں ڈرتا ہوں

أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ

اس کے بدل دے دین تمہارے کو یا یہ ظاہر کرے سچ زمین کے فساد

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

اور کہا موسیٰ نے تحقیق میں نے بناہ کیڑی ساتھ پروردگار اپنے کے اور پروردگار تمہارے کے ہر تکبر کرنے والے

لَا يَوْمَ مِنْ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَبُّكَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ

کہ نہیں ایمان لاتا ساتھ دن حساب کے اور کہا پروردگار تمہارے کے اور عا کر مجھے قبول کرو گا

لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

واسطے تمہارے تحقیق وہ لوگ کہ تکبر کرتے ہیں عبادت میری سے کتاب داخل ہونگے

در دعوت ہفتم ۱۱ م قریب تالی کی کتب ششم ۱۱

تالی کی یازدہم ۱۱

جَهَنَّمَ دُخْرَيْنَ ۝ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَيِّبًا

روزِخ میں ذیل ہو کر کہا اور انھوں نے اگر چاہتے رب ہمارا البتہ اتارنا فرشتے

فَأَنبَأَ إِسْمَاعِيلَ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ يَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَتْوَىٰ لَكَ ۚ وَكَانَ عَمَلٌ شَاكِرًا

پس تحقیق ہم ساتھ اس چیز کے کہ بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس لئے کافر میں اور کہا ان لوگوں نے جو لوگ کافر ہو

رَبَّنَا إِنَّا أَلَّيْنَاكَ مِنَ الْإِنْسِ فَتَجْمَلْهُمْ

اور رب ہمارا دکھلا ہم کو ان لوگوں کو کہ گراہ کیا ہم کو جنوں سے اور آدمیوں سے کہ زمین ہم ان لوگوں کو

تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ آئِينَ الْآسِفِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا

نیچے قدموں اپنے کے تو کہ ہو جاویں وہ سب کے والوں سے تحقیق ان لوگوں نے کہا اور انھوں

رَبَّنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فَمَا آتَانَا مِنْهُ لَمَّا كُنَّا فِيهَا ۖ كَذِبًا ۚ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَإِنِّي أَخَافُكُمْ

پروردگار ہمارا اللہ ہی بھرتا ہے اسے اور اس کے اور تے میں اور ان کے فرشتے یعنی وقت نوبت کے یہ کہتے ڈرو

وَأَنبَأَ الْيَتِيمَ إِذْ كَانَ مِنَ الْوَالِدِينَ إِذْ أَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَدَّ كَتَابَهُمْ إِذْ جَاؤُنَا بِهُنَّ ۚ وَأَنبَأَ الْبُشَيْرَ بِمَا لَمْ يَدْرِكُوا وَلَئِنَّكُمْ لَفِي غَمٍّ ۖ وَنَادَىٰ تَحْتَهُ وَبُشِّرُهُمْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا أَلِيمًا

درست غم کھاؤ اور نو شخیری دو اس وقت کہ تم نے وعدہ دیا جانے اللہ پروردگار ہمارا

رَبَّنَا لَنَا ظُلْمٌ سَابِقٌ وَإِنَّا ظَالِمُونَ ۚ وَنَادَىٰ تَحْتَهُ وَبُشِّرُهُمْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا أَلِيمًا

پروردگار ہمارا اور اس لئے ہم سے قبل ہمارے ظلم اور اس لئے ہم نے ظلم کیا اور ہمیں جنت دہشتاں اور درمیان تمہارا

اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَنَادَىٰ تَحْتَهُ وَبُشِّرُهُمْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا أَلِيمًا

اللہ اکٹھا کرے گا درمیان ہمارے اور طرف اس کے ہی بھر جانا ای پروردگار ہمارے کھوں سے ہم سے عذاب

نَامُومِنُونَ ۚ أَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرُ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ

حق ہم مسلمان میں کہاں ہی واسطے ان کے نصیحت پکڑنا اور تحقیق آیا ان کے پاس پیغمبر

بَيْنَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ أَعْيُنُكَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَىٰ تِجَارٍ مَّكِينَةٍ

ان کرنے والا تحقیق جن لوگوں نے کہا کہ پروردگار ہمارا اللہ ہی بھرتا ہے اسے اور اس لئے ہم نے ظلم کیا اور ہمیں جنت دہشتاں اور درمیان تمہارا

عَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَنعُوكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اور او پر اس کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہا اور رب میرے کو منع کرنے سے مجھ کو

پس تحقیق ہم ساتھ اس چیز کے کہ بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس لئے کافر میں اور کہا ان لوگوں نے جو لوگ کافر ہو

اور رب ہمارا دکھلا ہم کو ان لوگوں کو کہ گراہ کیا ہم کو جنوں سے اور آدمیوں سے کہ زمین ہم ان لوگوں کو

نیچے قدموں اپنے کے تو کہ ہو جاویں وہ سب کے والوں سے تحقیق ان لوگوں نے کہا اور انھوں

پروردگار ہمارا اللہ ہی بھرتا ہے اسے اور اس کے اور تے میں اور ان کے فرشتے یعنی وقت نوبت کے یہ کہتے ڈرو





رَبِّ اغْفِرْ لِي وَرَبِّ الدَّيِّ وَلَيْسَ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا

اور رب میرے بخش دے جس نے مجھ کو اور مان باپ میرے کو اور وہ واسطے اور نہیں جس نے کہہ نہ ازل سے میں میرے پاس

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا

وہ واسطے سب ایمان والوں کے اور ایمان والیوں کے اور مت زیادہ کر ظالموں کو

بَارَكًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ اللَّهُ

ہلائی شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشنے والے ہر جان کے کہ وحی کیا گیا ہے عزت میرے کرنا

فَقَرَأْتُ الْبُحُرَ فَقَالُوا لَنَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى

یہ جماعت نے جنوں میں سے پس کہا وہ جو تحقیق سناہنے قرآن عجب کہ راہ دکھاتا ہے عزت

لرُّشْدٍ فَاْمَنَّا بِهِ وَكُنْ نُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَإِنَّهُ تَعَالَى

بھلائی کے پس ایمان لائے ہم ساتھ اوس کے اور ہرگز نہ شریک دیکھتے ہم ساتھ رب کے کہ کو اور یہ کہ وہ بہت بلند

جَدَّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا إِنَّنَا نَخَافُ

عزت رب ہمارے کی نہیں پکڑی اوس نے بی بی اور نہ اولاد تحقیق ڈرتے ہیں ہم

مَنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبَّوْا قَطْرًا وَأَخْتَمَ لِي بِمَا

پہرہ و روزگار اپنے سے اوس دن کہ ہو گا منہ بندنے والا اور چڑھانے والا اور خاتمہ کر میرا اوس

خَمَّتْ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ

کہ خاتمہ کیا تو نے ساتھ اوس کے بندوں اپنے نیکوں کا وہ لوگ کہ نہیں ہی خوف

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَصَلَّى اللَّهُ

اوپر اوس کے اور نہ وہ غمگین ہیں تحقیق تو ہی تعریف کیا گیا ہے بزرگ اور رحمت بھیجے

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ شَرِّفْنَا بِكُنَا

اوپر حضرت محمد کے اور اوپر آل حضرت محمد کے اور سلام بھیجے اللہ میرے شرف کر تو ہم کو اور بزرگ

لَكِنْ يَعْزُّوْا عَزْرًا نَابِكًا لِمَا كَلَّمَكَ الْقَدِيمُ بِتَنَاقُلِهِ الْمُسْتَقِيمِ

بزرگ کے اور معزز کر تو ہم کو ساتھ کلام اپنے قدیم کے ثابت رکھو تو ہم کو اور بزرگ طریق سیدھے کے

مستحق تعقیق الخیس فیوم الخیس

نُورٌ يُوْرِيهِ بَالِنَا هُوَ أَصْلٌ بَيْنَهُ جَالِنَا وَاجْعَلْهُ

روشن کر تو اسکی روشنی سے دل ہمارا اور درست کر تو اسکی برکت سے حال ہمارا اور کر تو اسکی

حَافِظًا وَحَارِيسًا مِنْ أَلْفَاتِ الْعَاهَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ

حفاظت کر نیوالا اور نگہبان آفتوں سے اور منتہون سے اور بلاؤں سے

فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنُّومِ وَ

سفر میں اور حضر میں اور رات میں اور دن میں اور سوتے میں اور

الْيَقَظَةِ وَفِي جَمِيعِ أَحْوَالِنَا وَقَضَا حَاجَاتِنَا

جاسکتے ہیں اور سب حالوں ہمارے میں اور پوری ہونے حاجتوں ہمارے

اللَّهُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَليَصِلْ آخِرُ

اللہ میرے خاتمہ کر تو ہمارا ساتھ خیر اور نیک بختی کے اور چاہے کہ ملا دے آخر

قَوْلِنَا قَوْلَ الشَّهَادَةِ يَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ

قول ہمارے کہ قول شہادت سے ای زیادہ رحم کرنے والا رحم کرنے والوں کے قبول کر

بعد حمد خالق انس و جان ملک میں و آسمان نعت سرور سروران نبی آخر الزماں

اس آواں برکت اقرآن و زمان مہینت تو امان میں کتاب حسنت مآب

سراپا صواب سر اسر انتخاب قوت جان قوت ایمان یعنی نسخہ نامہ

جو ابہر القرآن حسب فرمایش ابوالحسن اہل بیت علیہم السلام قطب الدین احمد صاحب

غفر لہ اللہ المنان دوسری بارہ ربیع الاول ۱۳۳۱ ہجری مطبع یوسفی لکھنؤ

بار اول طبع ہو کر مطبع مومنین و مومنات و مقبول مسلمین و مسلمات

واحد اللہ علی ذلک حمد اکثر آمین

کلیف

غفر لہ

کلیف

کلیف

کلیف

کلیف

## اشتمارات

**مش سلیمانی** - اس رسالہ میں کیفیت بروج ورمطالہ اور قواعد پر کرنے تعویذات قضای حاجات وسعت رزق وحب و بغض و زبان بندی و دفع جن وحر و شفا لامراض نسخہ جات میں قیمت فی جلد ۲۰۰

**بحر بات سلیمانی** - اس رسالہ میں خواص سمازکی و کیفیت سبع سیارہ و حروف تہجی و نقوش و قانات استخارہ و عقدا نامی وغیرہ کی تحریر میں قیمت فی جلد ۲۰۰

**بیاض سلیمانی** - اس سال میں کوائف منازل قمر بروج نجوم و ساعات و موکلات و اوراد و ادکار حروف حی و ایام سعد و نحس وغیرہ بتاریخ میں قیمت فی جلد ۲۰۰

**غویذ سلیمانی** - اس سال میں تعریف و منافع کل اہل و صدق مقال و ترکی حیوانات و اوقات اجابت دعا خواص سورہ ہائے قرآن مجید و دفع شیطا لمان وغیرہ کے میں قیمت فی جلد ۲۰۰

**دعوات بہنسا** - یہ کتاب سراپا صواب بڑی عمدہ کہانی کی کتاب یاد دل کا گڑھا ہوا ناول نہیں ہے اس کتاب کو کامل تحقیق اور تدقیق سے مولانا محمد بن محمد المعز علیہ الرحمہ نے عربی زبان میں تالیف فرمایا تھا جسے مطبع نامی لکھنؤ نے برادران ہند کے واسطے اردو زبان میں ترجمہ کر کے مع ازاد قو اند فتوحات بہنسا کے نام سے طبع کر دیا قیمت فی جلد ۲۰۰

**مناقب غوثیہ** - یہ کتاب حضرت غوث پاک کی یعنی حالات میں مولوی محمد صادق مرحوم شہابی مدنی قادری کی تالیفات سے فارسی زبان میں تھی کا ترجمہ اردو زبان میں کر کے طبع کیا ہے قیمت فی جلد ۲۰۰

**فتوحات اسلام** - یہ متبرک محمد اسم بامسلی

اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے جس قدر غزوات اور فتوح ابتدا سے زمان رسالت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا زمان وفات خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ ہیں اس کتاب میں درج ہیں قیمت فی جلد ۲۰۰

**مجمع الحسنات فی ذکر اشرف الکائنات** یہ مجموعہ تیرہ رسالوں کا مؤلفہ مولوی حافظ حاجی ہادی علی خان صاحب اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت معتبر تاریخ ہے قیمت فی جلد ۲۰۰

**نصاب الاحکساب** - یہ کتاب علامہ عمر بن محمد بن عوض سنامی رحمہ اللہ کی تالیفات سے عالم فقہ زبان عربی میں اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے جس کا ترجمہ اردو زبان میں مطبع نامی لکھنؤ نے طبع کیا ہے قیمت فی جلد ۲۰۰

**اخبار الاحبار فی اخبار الاحیاء** - اس کتاب نایاب میں حالات و کرامات و ولادت و وفات اولیاء کرام و حضرات صوفیہ عظام کا بیان ہے قیمت فی جلد ۲۰۰

**انیس الاشباح** ترجمہ مولانا لاروارج - یہ اسی کتاب کا ترجمہ ہے جسے نواب سلطان جہان آرا بیگ نے حالات سلطان الاولیا حضرت خواجہ سعید الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ میں لکھا تھا قیمت فی جلد ۲۰۰

**چار باب اردو** - حضرت مولانا محمد رحمہ اللہ محدث دہلوی کی تالیفات میں سے ہے معتبر کتاب ہے جسے مولانا لاروارج نے طبع کیا ہے قیمت فی جلد ۲۰۰


**ریاض العارفین** - حضرت خواجہ سعید الدین چشتی رحمہ اللہ کی یہ مختصر تاریخ اردو زبان میں ہے قیمت فی جلد ۲۰۰

قیمت فی جلد ۲۰۰

جامع ترمذی شریف - مع سوال و جواب  
 و رسالہ اصول حدیث کے مجموعہ ترمذی قدیم و جدید کا  
 سفید گند و چھپائی عمدہ نہایت صحیح قیمت فی جلد ۳۰  
 سنان ابی داؤد مع شرح عین الودود  
 یہ کتاب ۲ جلد میں نہایت عمدہ و سب کا قدر اعلیٰ اور  
 کی صحت کے ساتھ طبع ہوئی ہو قیمت فی جلد ۳۰  
 ہدایۃ الاسلام - یہ کتاب اگر یہ فقہ میں ہے  
 مگر اسی تحت میں نہایت سی باتیں ایسی لکھی گئی  
 جنکی ضرورت پیشہ مسلمانوں کو ہوتی ہو قیمت فی جلد ۳۰  
 مجموعہ ہشت رسالہ - ہزار مسئلہ مسائل فقہیہ  
 صد و سبہ مسئلہ مناجات باری تعالیٰ حلیہ شریف  
 نور نامہ چھ مسائل کلمہ نامہ ہر قیمت فی جلد ۱۰  
 تنبیہ الغافلین کلان مسائل فقہیہ -  
 یہ کتاب اردو زبان اور سلیس عبارت میں مسلمانوں  
 کے لیے بہت مفید ہو قیمت فی جلد ۸  
 حکایات الصالحین - اس کتاب میں  
 تین باب ہیں اور ہر باب میں متعدد حکایات اولیاء اللہ  
 کی ہیں قیمت فی جلد ۵  
 بیگانہ نامہ محمد حنیف - اس کتاب میں وہ حالات  
 ہیں جو بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے  
 محمد حنیف نے یزید پلید کا قلع قمع کیا ہے نظم قادر  
 قیمت ۱۲ جلد ۱۲  
 چکنا منہ حضرت علیؑ - اس کتاب میں حضرت  
 علی رضی اللہ عنہ کی بعض اہم ایوان کو نظم کیا ہے  
 قیمت ۱۲ جلد ۱۲  
 اشرف الملوک - یہ رسالہ بھی نظم و شرواز  
 میں عام لوگوں کی فہم کے واسطے نوبت قیمت فی جلد ۱۲

مجموعہ سے ان  
 ترمذی قدیم و جدید  
 صبر عرب  
 اور صبر کا  
 رسالہ اسرار  
 مسئلہ التفصیل  
 عبدالنور محمد  
 اس کتاب میں نہایت تحقیق اور بہترین سے صحابہ  
 کرام کی فضیلت ایک کی دو سے بڑھات فرمائی ہے  
 قیمت ۱۲ جلد ۱۲  
 عروس حیات - نور نامہ اس کتاب  
 ہے جسے حیات مبارکہ کی حالت میں  
 تالیف کرنا شروع کیا اور لکھی  
 برحق ہے مدد طلب و دعا  
 سبذول قرانی حیات و طہار  
 التماس سے ہر ایک  
 باذکر و بیوی ان  
 ہر ایک کی  
 نور نامہ  
 علی ابی طالب

۱۲ جلد ۱۲



اطلاوع اس مبلع میں ہر علم فن کی کتب اور اس کے سوا  
 مطول ہر ایک شائق صحابہ غائبہ کی کتب جو جیکے ہمارے  
 کے معلوم کرنا سکتے ہیں قیمت بھی آرزو ہے اس کتاب کے پیکل  
 اور نین بعض کتب متفرقات دینیہ فارسی دار دو درج کر کے  
 اوس فن کی ادب بھی کتب موجود کارخانے کے

متفرقات دینیہ فارسی

و خلاصہ الادب اور - نامہ معروفہ تاریخ  
 اور خلاصہ الادب اور بین و ملائک ماہنامہ اور  
 کی دعائیں جسکی مواظبت مطہر اہل دین  
 سفینہ الاولیاء - تصنیف شاہزادہ  
 انوار العارفين - در احوال مذکورہ  
 مصنفہ محمد حسین مراد آبادی -

مذکرۃ المعاد - معاد کے بیان میں  
 قاضی سنا، اللہ پانی پتی -  
 الحکمین - منظوم مع نقشبوات حرمین  
 شریفین اور اسکے مقامات متبرکہ مولفہ حضرت  
 عبدالقادر جیلانی قدس سرہ -

حج کج منسی بقایۃ الشوریہ تصنیف  
 محمد شاہ -  
 ادعیۃ زیارت مدینہ منورہ مولفہ  
 محمد احسن -

تفسیر قلندر - فی تخریر الانور - سلسلہ  
 خاوردادہ قادریہ کا بیان مصنفہ شاہ محمد  
 ظہیر الاسلام معروف بہ ظہیر الدین -  
 اسمین فوائد دینیہ کا بیان معینان اہل  
 جو مصنفہ منشی ظہیر الدین -

میزان الفرقان - مدارج اول  
 محمد عثمان قیس -  
 نقوش معظم - واقع ہر دروہم جلا  
 و نقشہ کعبہ شریف و مدینہ منورہ ایک  
 تہذیب ناکر ہون کے گلے میں واسطے  
 کے ڈالا جاتا ہے -

رسالہ تبیان فی احکام الدخالیہ سائل  
 منع قلبان کشی احمد ناسل سوگند کا بیان از  
 ابو انجیر مولوی معین الدین -  
 مدار الحق فی رد معیار الحق - تصنیف  
 شاہ محمد حنفی در مباحث تقلید -

نقش نقالین - شریفین  
 بطور زیارت ہے -

روضۃ الشہداء - تصنیف ملا حسین  
 شرح اوراد فحجہ - مع شرح دعا و دعا  
 کا

صنایع کیمیا و مکانیک و صنایع  
معمول و غیر معمولی و صنایع

مسئول علی کمالی لطف علی جوینی  
ترجمه کرد و مکراراً دست نوشته



کتابخانه مشرقی



مجموعه آثار افاده عام مجموعه کرامات علی سوری ناصر علی صاحب بن ابوالحسن سوری

مطابع می می نشری نوین و کتب مطبوعه





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اَعْضَائِهِ صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَبْرِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْجِ وَمَعَهُ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبْدِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبَدِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبَدِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبَدِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبَدِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبَدِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبَدِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبَدِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبَدِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَبَدِ

Handwritten notes in Urdu script, likely providing commentary or additional prayers related to the main text.

Handwritten notes in Urdu script, continuing the commentary or providing further details.



لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آدِبِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِدَابِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَخْصِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَشْخَاصِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شِدَائِهِ مُحَمَّدٍ فِي الشُّدُوْدِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دشمنوں پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَضْوِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْضَاءِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَوَائِزِ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَائِزِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَنَابِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَنَابِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَمَلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْمَالِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَسَبِ مُحَمَّدٍ فِي النَّسَبِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَسَبِ مُحَمَّدٍ فِي النَّسَبِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَسَبِ مُحَمَّدٍ فِي النَّسَبِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

لَهُمْ صَلَٰوةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَسَبِ مُحَمَّدٍ فِي النَّسَبِ

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک

یا درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدن مبارک پر حضرت کے درمیان سب نیک



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الشَّمْطَاتِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الْأَشْتَاتِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الْجَنَابَاتِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الدُّرُوبِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الدَّارِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الشُّعَا

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي حَسْبِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الْجَلِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي حَسْبِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الْقُرَاعِدِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الْعُرَادِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الْعُرَادِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي الْعُرَادِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سید عالم پر حضرت کے درمیان سید عالم کے

Handwritten notes in Urdu script, likely explaining the significance of the prayers or providing additional supplications. The text is dense and covers the left margin.

Handwritten notes in Urdu script, continuing the explanation or providing further details. The text is dense and covers the left margin.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِظَمِ جِهَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَيَاةِ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِظَمِ عَدْوَيْهِ فِي الْعِطَافِ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِظَمِ كَيْدِهِ الْحَرَجِيِّ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَفِّهِ فِي الْأَحْقَافِ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دَرَسِهِ فِي الدُّرُونِ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دُرْبِهِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دُرْبِهِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دُرْبِهِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دُرْبِهِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى شَانِ مُحَمَّدٍ فِي الشُّبُونِ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى يَأْوِجِ مُحَمَّدٍ فِي الْيَأْوِجِ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَقَرِّ مُحَمَّدٍ فِي الْمَقَارِقِ

التي وردت في صلاة الجمعة حضرت محمد صاحب برادر حضرت كذا في النبي يرد في برهان قاطع ما في

Handwritten marginal notes in Arabic script, including phrases like 'والذي ورد في صلاة الجمعة' and 'اللهم صل وسلم على محمد'. The text is dense and covers the right side of the page.



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّ مُحَمَّدٍ فِي الدُّنْيَا

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دود پر حضرت کے درمیان سب دود

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حِجَابِي دَاعِيهِ فِي الْحَيَاةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دونوں پر وہ داعی پر حضرت کے درمیان پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَعْصُومِي مُحَمَّدٍ فِي الْعَامِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور معصوم پر حضرت کے درمیان معاصم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قِسْمَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْقِسْمِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر حضرت کے درمیان میان سرون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَاقِ مِاسِدِهِ فِي الرُّؤْيَا

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حاق ماسد پر حضرت کے درمیان ماسد

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَاكِسِ دَائِيهِ فِي الْآخِرَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور فاکس دای پر حضرت کے درمیان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُنْقَادِ حَفِيهِ فِي الْآخِرَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور منقاد کھوپڑی پر حضرت کے درمیان کھوپڑی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَقْرَةِ مُحَمَّدٍ فِي النَّقْرِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نقر پر حضرت کے درمیان نقر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَسَاوِي مُحَمَّدٍ فِي الْمَسَاوِي

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مساو پر حضرت کے درمیان مساو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَشِيمَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَشِيمَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مشیمہ پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَلْدِ مُحَمَّدٍ فِي الْجُلْدِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جلد پر حضرت کے درمیان سب جڑوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَرْمِ مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صرم پر حضرت کے درمیان سب چمڑوں

Handwritten notes in Urdu script on the right margin, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّ مُحَمَّدٍ فِي الدُّنْيَا' and other religious expressions.

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُدْرَةِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گوشت پر حضرت کے درمیان سب انشتوں کو

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَنَسَخِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بوقتے پر حضرت کے درمیان سب لوگوں کو

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الشُّجْرَمِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جی پر حضرت کے درمیان سب بیوں کو

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي السَّمَانِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مٹاپے پر حضرت کے درمیان سب پھول لگوں کو

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الشَّرْحَانِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شرم پر حضرت کے درمیان سب شرموں کے

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَخْتِيسِيَةِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جھلی پر حضرت کے درمیان سب جھلیوں کے

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَضَبِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْصَابِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور چھو پر حضرت کے درمیان سب چھووں کو

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى غَضَلَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْعَضَلَاتِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اڑے پر حضرت کے درمیان سب اڑوں کے

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَتِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَوْتَادِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تانت پر حضرت کے درمیان سب تانتوں کو

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَبَاطِ مُحَمَّدٍ فِي الرِّبَاطَانِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رباط پر حضرت کے درمیان سب رباطوں کو

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى لَيْفِ مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْفَاتِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ریشہا پر اور رباط پر حضرت کے درمیان سب ریشہوں کو

لَعْمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِرْقِ مُحَمَّدٍ فِي الْعُرُوقِ

اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سرس پر حضرت کے درمیان سب سرس کے

بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گوشت پر حضرت کے درمیان سب انشتوں کو  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بوقتے پر حضرت کے درمیان سب لوگوں کو  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جی پر حضرت کے درمیان سب بیوں کو  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مٹاپے پر حضرت کے درمیان سب پھول لگوں کو  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شرم پر حضرت کے درمیان سب شرموں کے  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جھلی پر حضرت کے درمیان سب جھلیوں کے  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور چھو پر حضرت کے درمیان سب چھووں کو  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اڑے پر حضرت کے درمیان سب اڑوں کے  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تانت پر حضرت کے درمیان سب تانتوں کو  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رباط پر حضرت کے درمیان سب رباطوں کو  
اور دو اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ریشہا پر اور رباط پر حضرت کے درمیان سب ریشہوں کو

علاصم القاری  
کرامت ابن ربیع  
اصفا کرتی بایز  
عبدودر اصطلاحات  
درست است بسبب  
مفسر کی وصلا بعد انضال  
از این دو انگیزه  
گردید مطبع  
۱۲  
۱۱  
۱۰  
۹  
۸  
۷  
۶  
۵  
۴  
۳  
۲  
۱





عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَا بَعَثَهُ مُحَمَّدٌ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رگ مابین پر حضرت کے

عَلَى عِرْقِ النَّسَاءِ مُحَمَّدٌ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رگ عرق النساء پر حضرت کے

عَلَى صَافِنِ مُحَمَّدٌ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رگ صافن پر حضرت کے

عَلَى مَقْصِلِ مُحَمَّدٍ فِي الْفَاصِلِ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جوڑ پر حضرت کے درمیان سب جوڑوں کے

عَلَى مَقْصِلِ الْمُوشِقِ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جوڑ مستمک پر حضرت کے

عَلَى مَقْصِلِ السُّلَيْسِ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جوڑ زم پر حضرت کے

عَلَى مَقْصِلِ الْعُسْرِ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جوڑ مشکل پر حضرت کے

عَلَى مَقْصِلِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِوْصَالِ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جوڑ پر حضرت کے درمیان سب جوڑوں کو

عَلَى مَقْصِلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَقْصِلِ السُّلَيْمِيَّةِ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جوڑ پر حضرت کے درمیان سب جوڑوں کو

عَلَى مَقْصِلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِظَمِ مُحَمَّدٍ فِي الْعِطَامِ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بڑی پر حضرت کی درمیان سب جوڑوں کے

عَلَى مَقْصِلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَقْصِلِ مُحَمَّدٍ فِي الْكُفَا

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زم پر حضرت کی درمیان سب جوڑوں کے

عَلَى مَقْصِلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَقْصِلِ مُحَمَّدٍ فِي الْغَضَاءِ

رود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کری پر حضرت کی درمیان سب جوڑوں کے

اندر زریز از دست خدا  
ان درو اعطادیت را از  
تفقت آن فزون تر از صافن  
الطیب علیہ  
غراض علیہ  
از زمین کوی  
ساق پای با  
بیشتر از  
سبب علیہ  
بسیار از  
بسیار از  
بسیار از

اندر زریز از دست خدا  
ان درو اعطادیت را از  
تفقت آن فزون تر از صافن  
الطیب علیہ  
غراض علیہ  
از زمین کوی  
ساق پای با  
بیشتر از  
سبب علیہ  
بسیار از  
بسیار از  
بسیار از



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

Handwritten notes in Urdu script, including the word 'عشق' (Love) and various religious expressions.

Handwritten notes in Urdu script, including the word 'عشق' (Love) and various religious expressions.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَطْبَعَةِ الشَّمْسِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور طبقہ شمس پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَطْبَعَةِ الشَّمْسِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور طبقہ شمس پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دُطُوبِ الْبَيْضَةِ فِي الرُّطُوبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دُطُوبِ الْبَيْضَةِ پر حضرت کے درمیان سب دُطُوبِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رُطُوبِ الْجَلِيدِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رُطُوبِ الْجَلِيدِ پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رُطُوبَةِ الزُّجَّاجَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رُطُوبَةِ الزُّجَّاجَةِ پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَصَبَةِ الْجَوْفَةِ فِي كَلْبَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عَصَبَةِ الْجَوْفَةِ پر حضرت کے درمیان سب عصاب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمْعِ كُودَةِ فِي الْحَسَامِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جَمْعِ كُودَةِ پر حضرت کے درمیان سب کُودِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُقَابَةِ حَمَلٍ فِي الْمَمْلَكَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مُقَابَةِ حَمَلٍ پر حضرت کے درمیان سب مملکتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَا فِي عَيْنِ حَمَلٍ فِي الْأَمَاقِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مَا فِي عَيْنِ حَمَلٍ پر حضرت کے درمیان سب کوئی اور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَقْدَمِ عَيْنِ حَمَلٍ فِي الْمَقَادِمِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مَقْدَمِ عَيْنِ حَمَلٍ پر حضرت کے درمیان سب مَقْدَمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَوْخَرَاتِ عَيْنِ حَمَلٍ فِي الْكَاخِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مَوْخَرَاتِ عَيْنِ حَمَلٍ پر حضرت کے درمیان سب کُوخِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَرْمَعِ حَمَلٍ فِي الْمَرَامِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مَرْمَعِ حَمَلٍ پر حضرت کے درمیان سب مَرْمَعِ

بہت سی تفسیریں اور حواشی لکھی ہیں۔ مثلاً: "اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَطْبَعَةِ الشَّمْسِ" کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد اور ان کے پیروں پر رحمت بھیجے۔ "دُطُوبِ الْبَيْضَةِ" اور "رُطُوبِ الْجَلِيدِ" وغیرہ کے معنی بھی لکھے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سب پر حضرت کی درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آنکھ کے کمر پر درمیان سب کو دونوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کو دیکھ کر سیاہی پر درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آنکھ کی سیاہی پر درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی سیاہی پر درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سب پر حضرت کی آنکھ کے درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آنکھ کے درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آنکھ کے درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آنکھ کے درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آنکھ کے درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آنکھ کے درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آنکھ کے درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آنکھ کے درمیان سب کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ' and other religious expressions.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي إِسْرَائِيلَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کان پر حضرت کے درمیان سب کا نون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْحُدُودِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گردہ اگر دوکان پر حضرت کے درمیان گردہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الشُّجْرَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی کان کی لوہہ درمیان لوکا نون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْغَفَارِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے کان کے بال بر درمیان بال کا نون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْحَى

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے کان کے سوراخ پر درمیان درواخ کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَشَّاحِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی کان کی رگ درمیان رگ کا نون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْغُضِّ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی کان کی شش پر درمیان شش کا نون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي النَّقَادِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے کان کے کنارہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْفَيْتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کو دوزخ کا نون کی تپنے کی چھی پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْخُرَيْبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور درون جلیون پر حضرت کو کان کی

بسم اللہ الرحمن الرحیم  
 درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے کان کی لوہہ درمیان لوکا نون  
 درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے کان کے بال بر درمیان بال کا نون  
 درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے کان کے سوراخ پر درمیان درواخ کا  
 درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی کان کی رگ درمیان رگ کا نون  
 درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی کان کی شش پر درمیان شش کا نون  
 درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے کان کے کنارہ  
 درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کو دوزخ کا نون کی تپنے کی چھی پر  
 درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور درون جلیون پر حضرت کو کان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت محمدی کان کی کوئی تہ کی تری پر میان ہر دو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہر دو دن کان حضرت کو در میان ہر دو دن کا تو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہر دو دن کان حضرت کو در میان ہر دو دن کا تو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہر دو دن کان حضرت کو در میان ہر دو دن کا تو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہر دو دن کان حضرت کو در میان ہر دو دن کا تو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہر دو دن کان حضرت کو در میان ہر دو دن کا تو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہر دو دن کان حضرت کو در میان ہر دو دن کا تو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہر دو دن کان حضرت کو در میان ہر دو دن کا تو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہر دو دن کان حضرت کو در میان ہر دو دن کا تو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ فِي الْبَهَائِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہر دو دن کان حضرت کو در میان ہر دو دن کا تو

Handwritten notes in Urdu script, likely providing commentary or additional prayers related to the main text.

Handwritten notes in Urdu script, likely providing commentary or additional prayers related to the main text.





لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی ناک کی دونوں رک پر

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی ناک کے دونوں کناروں پر

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب اور حضرت کی ناک کی بڑے درمیان ہونا کو

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب اور حضرت کی ناک کے تھکے کے دائرہ پر

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب اور کئی ناک کی چوڑا ہڈی پر درمیان سب ناکوں کو

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی ناک کے اندر دونوں فرسوں پر

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی درمیان سب موٹھوں کے

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی درمیان سب موٹھوں کے

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی درمیان سب موٹھوں کے

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اوپر کے ہونٹوں پر

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے گلے کے

لَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی دونوں ہونٹوں کی سرنگی پر

لفظی انصاف اور  
تصنیف و تصانیف  
میں اس کا بیان  
کے ساتھ ہے  
یہ دعا ہے  
جو نبی کریم  
پر پڑھی جائے  
تو اللہ تعالیٰ  
اپنی رحمت سے  
اسے بخشے گا  
اور اس کو  
جنت میں لے جائے گا

زیادہ اور ہموار اور  
سب سے پہلے  
اس دعا کو پڑھنا  
بہتر ہے  
اور اس کا  
مطلب ہے  
کہ اللہ تعالیٰ  
اس کو  
جنت میں  
لے جائے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَسْفَلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْفَلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَقْدَقَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْعَتَائِلِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَشْجَارِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْحَسَمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْحَسَمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْحَسَمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَسْنَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْكُتَابِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْعَتَائِلِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَسْفَلِ

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَسْفَلِ' and other supplications.



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ فِي الْكَلْبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زبان پر حضرت کی درمیان سب زبانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ذُنُوبِ مُحَمَّدٍ فِي الذِّكْرِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زبان پر حضرت کی درمیان سب زبانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَسْرِدِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسَارِدِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زبان پر حضرت کی درمیان سب زبانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَذَابِ مُحَمَّدٍ فِي الْعَذَابَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زبان پر حضرت کی درمیان سب زبانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عُنُقِ مُحَمَّدٍ فِي الْعُنُقَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی زبان کے گوشے پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَابِئِ لَعَابِ مُحَمَّدٍ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی زبان کے تلیے کو دوسواں پر چہنئے لعاب پلٹا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَمْرُقَاتِ مُحَمَّدٍ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی زبان کی بڑکی دونوں ہڈیوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَدْرِي مُحَمَّدٍ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی زبان کی تلیے کی دونوں ہڈیوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَمْرٍ مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْرَاءِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کفارہ زبان پر حضرت کی درمیان کفاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَنَاطِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَنَاطِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تالو پر حضرت کی درمیان کفاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَطْعِ مُحَمَّدٍ فِي النَّطْعِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی تالو کی ٹکڑی پر حضرت کی درمیان کفاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى لَهَاتِ مُحَمَّدٍ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گوشے پر حضرت کی درمیان کفاروں کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللہ تعالیٰ...', 'سب زبانوں کے...', and 'گوشے پر...'. The text is dense and covers the left side of the page.



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي النَّعَاسِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیاض بر حضرت کے درمیان سب فضائل کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي النَّعَاسِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے کوئے کے بیچ کے گوشت پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْمَرَائِطِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زخمت پر حضرت کے درمیان سب زخروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْبَلَاءِ عِجِبِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زخمت پر حضرت کے درمیان سب زخروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْبَلَاءِ عِجِبِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کشتہ پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الرِّقَابِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گردن پر حضرت کی درمیان سب گردنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْأَعْقَابِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گردن پر حضرت کی درمیان سب گردنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْأَعْيَابِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گردن پر حضرت کی درمیان سب گردنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْأَعْيَابِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گردن پر حضرت کی درمیان سب گردنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْقَوَائِمِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گردن پر حضرت کی درمیان سب گردنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْعِشَاقِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گردن پر حضرت کی درمیان سب گردنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْعِشَاقِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گردن پر حضرت کی درمیان سب گردنوں کے

Handwritten notes in the left margin, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ' and other religious text.

Handwritten notes in the left margin, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ' and other religious text.





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

الهي درود اور سلام جمع حضرت محمد صاحب بر اور حضرت کے گھر کے صحابہ کے لئے ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the number 26 and various religious phrases.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے سب سے بڑے عزیز پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ قَلْبِهِ كَتَبْتُمْ فِي الْقُلُوبِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے منہ کے کنارے پرستان غار موحیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنْقَارِ حَوَائِبِ مُحَمَّدٍ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے منہ کے کنارے کی پتھری پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كَاهِلِ مُحَمَّدٍ فِي الْكُوَاهِلِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے دونوں سونٹوں کے درمیان پرینے والی سونٹوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَابِ امِّهِ مُحَمَّدٍ فِي الْبُيُوتِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے گھر کے دروازے پر اور حضرت کے گھر کے دروازے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كَابِتِهِ مُحَمَّدٍ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے گھر کے دروازے کے درمیان پرینے والی سونٹوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنْشِجِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَنَاسِجِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے منہ کے کنارے پرستان غار موحیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَرْبِطِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْبِطِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے گھر کے دروازے کے درمیان پرینے والی سونٹوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَابِ امِّهِ مُحَمَّدٍ فِي الْبُيُوتِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے گھر کے دروازے کے درمیان پرینے والی سونٹوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَضَنِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَحْضَانِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے گھر کے دروازے کے درمیان پرینے والی سونٹوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَصَدِ مُحَمَّدٍ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے گھر کے دروازے کے درمیان پرینے والی سونٹوں پر

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے گھر کے دروازے کے درمیان پرینے والی سونٹوں پر

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے گھر کے دروازے کے درمیان پرینے والی سونٹوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٌ فِي الصَّبَاحِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَآلِهِ مُحَمَّدٌ فِي الْآوَابِلِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِرْقِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرَاثِقِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَاعِدِ مُحَمَّدٍ فِي السَّكَاكِعِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِرْمَلِ مُحَمَّدٍ فِي الْمِرْمَلِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمِنْ أَوْلَادِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْجَلِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَسْبَحِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسْبَحِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَدَلِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَدَلِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دِرَاعِ مُحَمَّدٍ فِي الدِّرَاعِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَائِمِ مُحَمَّدٍ فِي النَّائِمِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سِرَاخِ مُحَمَّدٍ فِي السِّرَاخِ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ فِي الْكَفِّ

اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان کئی آدمیوں کو بھیجیں' repeated vertically.



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَجْهِهِ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ابْنَانِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَيْتَانِ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پورے حضرت کی درمیان سپردوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَسْنَانِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَيْتَانِ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَسَبِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَيْتَانِ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَجْهِ مُحَمَّدٍ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَدَبِ مُحَمَّدٍ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَأْسِ مُحَمَّدٍ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَدَمِ مُحَمَّدٍ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَدْبِ مُحَمَّدٍ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَوْبِ مُحَمَّدٍ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَرْجَمِ مُحَمَّدٍ فِي الشَّجَرِ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى شَعْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْكَاسِ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَلْبِ مُحَمَّدٍ

یہ ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

یہ کلمات بھیج کر حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی اس کمان کلمات پر جو انکو نیکو کرنے کے قریب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بُرْجَانِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَرَاءَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أُمَّةٍ كَمَلَتْ فِي الْأَنْبِيَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَيْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَنْبِيَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنْتَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي الْيَمِينِيَّةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِي مُحَمَّدٍ فِي الْبَيْتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ خَلْقِي مُحَمَّدٍ فِي الْإِيمَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ قَوْمِي مُحَمَّدٍ فِي الْأَقْوَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ قَلَامِي مُحَمَّدٍ فِي الْقَلَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دِينِي مُحَمَّدٍ فِي الْأَوْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَكْبَلِي مُحَمَّدٍ فِي الْأَكْبَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَطْفَالِي مُحَمَّدٍ فِي الْأَطْفَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَطَائِي مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْطِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَطَائِي مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْطِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَطَائِي مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْطِ

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ' and other supplications.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی بیٹیہ کے درمیان اولوں پر

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ' and other religious text.







اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دل پر حضرت کے درمیان دلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دل پر حضرت کے درمیان سب دلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سُوْدِيَّاتِ مُحَمَّدٍ فِي السُّوْدِيَّاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سب پر اور سب پر حضرت کے درمیان سب دلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِلَاقِ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْعِلَاقِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے دل کے علاقوں پر درمیان غلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَطْنِي قَلْبِي فِي الْبَطْنِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آپ کو دل کو اور بائیں دو لہجوں بطن پر درمیان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دَهْلِيْنِ مُحَمَّدٍ فِي الدَّهْلِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے دل کے کھلی جوں پر درمیان کھلی جوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَاعِهَا قَلْبِي فِي الْقَوَاعِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے دل کے قاعہ کے پر درمیان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حُجَابِ قَلْبِي فِي الْحُجُوبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے دل کے پر درمیان پردوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ابْهَرَاتِي فِي الْاَبْهَرَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے دل کے ابھرتے ہوئے پر درمیان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَتْفِ قَلْبِي فِي الْاَوْذَانِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے دل کے اتنی قلوبہ کے کانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سُوْدِيَّاتِ مُحَمَّدٍ فِي السُّوْدِيَّاتِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِلَاقِ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْعِلَاقِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَطْنِي قَلْبِي فِي الْبَطْنِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دَهْلِيْنِ مُحَمَّدٍ فِي الدَّهْلِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَاعِهَا قَلْبِي فِي الْقَوَاعِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حُجَابِ قَلْبِي فِي الْحُجُوبِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ابْهَرَاتِي فِي الْاَبْهَرَاتِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَتْفِ قَلْبِي فِي الْاَوْذَانِ



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَعْدَنَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَعْدِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے معدے پر درمیان سب معدون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور معدہ پر حضرت کے درمیان سب معدون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَطْوَرِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیت پر حضرت کے درمیان سب بیتوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عِلَّةِ مُحَمَّدٍ فِي الْعَالَمِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عیلت پر حضرت کی درمیان سب بیٹوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لَيْطَةِ مُحَمَّدٍ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے بیٹ کے اوپر کے چھ بیٹے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَسَارِقِ مُحَمَّدٍ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مساریق پر حضرت کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَحْشَاءِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْيُنِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب اور ان کی پیش کو اندر کی چیزیں درمیان اول چیزوں کو جو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عِرَاقِ مُحَمَّدٍ فِي الْمِرَاوِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عراق پر حضرت کے چھ بیٹوں اور حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ صِفَاقِ مُحَمَّدٍ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی عراق کے تلے کی جھلی اور پردہ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَرْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْيُنِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صفاق کے تلے کو پردہ پر درمیان سب معدون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سِرِّ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْيُنِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نال پر حضرت کی درمیان سب نالوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سُرَّةِ مُحَمَّدٍ فِي السُّرِّ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سورت پر حضرت کی درمیان سب سورتوں

Handwritten notes in Urdu script on the right margin, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ' and 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ'.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کی توہمت اور پرہیزگاری پر اور ان کی توفیق اور پروردگاری پر اور ان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کی توہمت اور پرہیزگاری پر اور ان کی توفیق اور پروردگاری پر اور ان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کی توہمت اور پرہیزگاری پر اور ان کی توفیق اور پروردگاری پر اور ان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کی توہمت اور پرہیزگاری پر اور ان کی توفیق اور پروردگاری پر اور ان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کی توہمت اور پرہیزگاری پر اور ان کی توفیق اور پروردگاری پر اور ان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کی توہمت اور پرہیزگاری پر اور ان کی توفیق اور پروردگاری پر اور ان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کی توہمت اور پرہیزگاری پر اور ان کی توفیق اور پروردگاری پر اور ان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کی توہمت اور پرہیزگاری پر اور ان کی توفیق اور پروردگاری پر اور ان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کی توہمت اور پرہیزگاری پر اور ان کی توفیق اور پروردگاری پر اور ان کی

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ' and other religious expressions.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نولون آیت پر حضرت کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَعَانِهِ الْمُسَوِّمِ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور معانی مستقیم آیت پر حضرت کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَلْبِكَ مُحَمَّدٍ فِي الْكَلْبِ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کلبہ پر حضرت کے درمیان سب کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى امْتَانِهِ مُحَمَّدٍ فِي امْتَانِهِ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور امتان پر حضرت کے درمیان سب کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَاصِيَّتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَاصِيَّةِ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خاصیت پر حضرت کے درمیان سب کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَصْرِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَصْرِ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خصر پر حضرت کے درمیان سب کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَظَمِ حَقِّهِ مُحَمَّدٍ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عظمت کی کوکھی کی بڑھما پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَشْفِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْكَشْفِ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کوشی پر حضرت کے درمیان سب کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَرْدِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَرْدِ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ورد پر حضرت کے درمیان سب کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَقِّهِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَقِّ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حق پر حضرت کے درمیان سب کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَرَاتِبِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرَاتِبِ

السی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مراتب پر حضرت کے درمیان سب کو

ان غلطیوں سے بچنے کے لیے...  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَعَانِهِ الْمُسَوِّمِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَلْبِكَ مُحَمَّدٍ فِي الْكَلْبِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى امْتَانِهِ مُحَمَّدٍ فِي امْتَانِهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَاصِيَّتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَاصِيَّةِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَصْرِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَصْرِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَظَمِ حَقِّهِ مُحَمَّدٍ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَشْفِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْكَشْفِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَرْدِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَرْدِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَقِّهِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَقِّ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَرَاتِبِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرَاتِبِ

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان پر حضرت کی درمیان سب راتوں کے

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی رات کے ہر ایک گوشت پر درمیان گوشتوں پر اور

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور چھٹے پر حضرت کے درمیان سب چھٹھوں کے

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی رات کے ہر ایک

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گوشت باطن ان پر حضرت کے درمیان گوشتوں کے

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی رات کے ہر ایک جانور پر

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی رات کے ہر ایک جانور پر

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے درمیان سب جانوروں کے

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رات کے ہر ایک جانور پر

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے درمیان سب جانوروں کے

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور چھٹے پر حضرت کے درمیان سب چھٹھوں کے

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور باطن ان پر حضرت کے درمیان گوشتوں کے

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی رات کے ہر ایک جانور پر

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے درمیان سب جانوروں کے

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی رات کے ہر ایک جانور پر

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے درمیان سب جانوروں کے

بِسْمِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبَاتٍ

ورد اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی رات کے ہر ایک جانور پر

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'بِسْمِ' and other religious phrases, written vertically along the left side of the page.









اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي الطَّبَاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّحَابَاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي الْأَسْمَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي الْقُرْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي النَّوَابِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ فِي السَّمَاءِ

Handwritten marginal notes in Urdu script, likely providing commentary or additional prayers related to the main text.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

Handwritten notes in Urdu script, likely explaining the significance of the prayers or the names of the individuals mentioned.

۴۶

Extensive handwritten notes in Urdu script, providing further commentary or details related to the main text.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَسْبَةِ الْمُشْرِكِ فِي الْحَوَائِصِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب بنا اور جس مشترک پر حضرت کو درمیان سب عواصم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جِبَالِ مُحَمَّدٍ فِي الْجِبَالِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جبال پر حضرت کے درمیان سب جبال کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَهْمِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِهَامِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور وہم پر حضرت کے درمیان سب وہم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَافِظَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَافِظَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حافظے پر حضرت کے درمیان سب قوت حافظے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنصُوقَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَنصُوقَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور قوت منہ پر حضرت کے درمیان سب قوتوں منہ کے

شَرِّ مُتَعَلِّقَاتِ أَعْضَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شر متعلقات اعضاء سے اللہ علیہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لَوْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَلْوَانِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رنگ پر حضرت کے درمیان سب رنگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ صُورَةِ مُحَمَّدٍ فِي الصُّوَرِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صورت پر حضرت کے درمیان سب صورتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَلْبَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَلَالِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حلیت اور طہی پر حضرت کے درمیان سب حلیتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ هَيْئَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْهَيْئَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صورت پر حضرت کے درمیان سب صورتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اشْكَالِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَشْكَالِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شکل پر حضرت کے درمیان سب شکلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمَالِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْمَلِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خوبصورتی پر حضرت کے درمیان سب خوبصورتیوں کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللہ صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطهارتین' and other religious expressions.

نظر بفرماتین

در میان سب

نظر بفرماتین

در میان سب

نظر بفرماتین

در میان سب

نظر بفرماتین

در میان سب

نظر بفرماتین

در میان سب

نظر بفرماتین

در میان سب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَسَنِ مُحَمَّدٍ فِي الْحِسَابِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی در میان سب خوبصورتی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نُورِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِنْفِاطِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نور پر حضرت کی در میان سب نور و نور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَاطِقِ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَاطِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ناطق پر حضرت کی در میان سب ناطق و ناطق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ انْطِقِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِنطِقِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انطق پر حضرت کی در میان سب انطق و انطق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَرْفَةِ مُحَمَّدٍ فِي الطَّرْفِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور طرف پر حضرت کی در میان سب طرف و طرف

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لَحْمِ مُحَمَّدٍ فِي اللَّحْمِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور لحم پر حضرت کی در میان سب لحم و لحم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَصَرِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَصَرِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بصر پر حضرت کی در میان سب بصر و بصر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَطَسَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْعَطَسَادِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عطسہ پر حضرت کی در میان سب عطسہ و عطسہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ صَوْتِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْوَادِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آواز پر حضرت کی در میان سب آواز و آواز

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لَحْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَلْحَانِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور لحن پر حضرت کی در میان سب لحن و لحن

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَلْقَاطِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور لفظ پر حضرت کے درمیان سب لفظوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَلِمَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْكَلِمِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کلمے پر حضرت کے درمیان سب کلموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَلَامِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَثَلِمِينَ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بات پر حضرت کے درمیان سب باتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَقْوَالِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور قول پر حضرت کے درمیان سب قولوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَفْسِ مُحَمَّدٍ فِي النَّفُوسِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جان پر حضرت کے درمیان سب جانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَفْسِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَنْفَاسِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نفس نامیہ پر ان کے درمیان سب نفسوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَكْوَتِ مُحَمَّدٍ فِي السَّكْوَاتِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سکوت پر حضرت کے درمیان سب سکوتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَمْتِ مُحَمَّدٍ فِي الصَّامِتِينَ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صمت پر حضرت کے درمیان سب صمتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَيْكَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَيْكَاتِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیعت پر حضرت کے درمیان سب بیعتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خُشُوكِ مُحَمَّدٍ فِي الْخُشُوكِ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خشی پر حضرت کے درمیان سب خشیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَبَسُّمِ مُحَمَّدٍ فِي التَّبَسُّمِينَ

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مسکراہٹ پر حضرت کے درمیان سب مسکراہٹوں کے

یہ درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے درمیان سب باتوں کلموں قولوں جانوں نفسوں سکوتوں صمتوں بیعتوں خشیوں مسکراہٹوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَشَاءِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور علیؑ پر حضرت کے درمیان تلخے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَطَا

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور علیؑ پر حضرت کے درمیان سب ذکون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حُرَاكَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْحُرَاكَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حرکت پر حضرت کے درمیان سب حرکتوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سُكُونِ مُحَمَّدٍ فِي السُّكُونِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سکون پر حضرت کے درمیان سب سکون

فِي فَضَلَاتِ أَعْضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِبْرَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ایسٹ پر حضرت کے درمیان سب ایسٹ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْرَاقِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پسینے پر حضرت کے درمیان سب پسینے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي الدَّمَاءِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور لہو پر حضرت کے درمیان سب لہوون

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي الْبِلَاغِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بلوغ پر حضرت کے درمیان سب بلوغوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي الصَّفْرَاءِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سر پر حضرت کے درمیان سفراوی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي السُّوَادِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سودا پر حضرت کے درمیان سوفاوی

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللہ تعالیٰ', 'حضرت محمد', and 'آل محمد'.



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الرَّيَاحِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیچ پر حضرت کی در میان ریاح کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الدَّمْعِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آنسو پر حضرت کے در میان آنسوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْعَبْرَةِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آنسو پر حضرت کے در میان سب آنسوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الصَّاعِقِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے کان کے میل پر در میان انہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الدَّيْنِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کی آپ بیتی پر در میان اہل بیت پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انہوں کے ہر شخص پر حضرت سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الرُّمُوقِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تموک پر حضرت کے در میان تموک پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي النَّهَارِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دن میں روزانہ حضرت کے در میان تموک پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي اللَّيْلِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے رات میں روزانہ حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي النَّهْرِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حضرت کے شفق پر در میان سب شخصوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْإِسْمِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کوہ پر حضرت کے در میان سب شخصوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْوَسْمِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مسند پر حضرت کے در میان سب شخصوں کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, likely providing commentary or additional prayers related to the main text.

ابتداء ولادت سے پیش  
بوس تک ہر چیز میں  
اس کے نو ظاہر و خفیہ  
اس کے بعد جمال و کمال  
و غیرہ میں ہر چیز میں  
اس کا فطر و عطر و طہ  
اس کے ساتھ ابتدا سے  
سن میں ہر سال میں  
صلوات ہو جائے اس کو  
دانت سفید و جھونک  
بوس تک بعد نبیوں  
۵۲

۵ | فِي أُسْنَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَكَلَدَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَالِدَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِصْحَابِهِ فِي الرِّضَاعَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَائِرِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَقِيْقَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَوَاطِنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِسْمِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عُسْرٍ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْيَارِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَيَاتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَحْيَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سِنِّ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْنَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أُمَّهِ مُحَمَّدٍ فِي النَّاصِيَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طُفُولِيَّتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَطْفَالِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ صَبِيَّتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الصَّبِيَّاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ تَمَعُّوْعِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَتَمَعُّوْعِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْمَرَاهِقِينَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سن آغاز بلوغ پر حضرت کے درمیان سب جوانوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْفَتِيَانِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سن جوانی پر حضرت کے درمیان سب جوانوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْكُشْبَانِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جوانی پر حضرت کے درمیان جوانوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كَهْوَلَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْكَهْوَلِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سن کہولت پر حضرت کے درمیان کہول کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الشُّجَاعَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَشَايِخِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سن شجاعت پر حضرت کے درمیان مشایخ کے

4 فِي أَوْصَافِهِ وَأَفْعَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ذَاتِ مُحَمَّدٍ فِي الدَّوَاتِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ذات پاک حضرت کے درمیان سب ذاتوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَصْفَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَوْصَافِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صفت پر حضرت کے درمیان سب صفوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَعْتِ مُحَمَّدٍ فِي النَّعَاتِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تعریف پر حضرت کے درمیان سب تعریفوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ صِفَةِ مُحَمَّدٍ فِي الصِّفَاتِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صفت پر حضرت کے درمیان سب صفوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ خَلْقِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَخْلَاقِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اچھی عادت پر حضرت کے درمیان سب خصلتوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سِيَرَةِ مُحَمَّدٍ فِي السِّيَرِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خصلت پر حضرت کے درمیان سب خصلتوں کے

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سن آغاز بلوغ پر حضرت کے درمیان سب جوانوں کے

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ذات پاک حضرت کے درمیان سب ذاتوں کے

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صفت پر حضرت کے درمیان سب صفوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَبِيعِ مُحَمَّدٍ فِي التَّلْبِاسِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور طبیعت پر حضرت کی درمیان سب طبیعتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَعْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْجَالِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کام پر حضرت کے درمیان سب کاموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَزْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْعَزْمَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عزم پر حضرت کے درمیان سب عزموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آرَادِ مُحَمَّدٍ فِي الْآرَادَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ارادے پر حضرت کے درمیان سب ارادوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِسَارَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِسَارَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اشارے پر حضرت کے درمیان سب اشاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَمَلِ مُحَمَّدٍ فِي الْعَمَلِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور قول پر حضرت کے درمیان سب قولوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَلَاغَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَلَاغِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بلاغت پر حضرت کی درمیان سب بلاغوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ تَصَاحُفِ مُحَمَّدٍ فِي التَّصَاحُفِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خوش بمانی پر حضرت کی درمیان سب خوش بیانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عِبَادَتِ مُحَمَّدٍ فِي الْعِبَادَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عبادت پر حضرت کی درمیان سب عبادتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ فِرْدَوْسِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِفْكَارِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سوچ پر حضرت کے درمیان سب سوچوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لَبِيبِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِبْيَابِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عقل پر حضرت کی درمیان سب عقلوں کے

۵۵









اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَسَنٍ وَحُجْرَةَ فِي الْإِحْلَامِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور برادر باری پر حضرت کی در بیان برادر باری کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُشَاهِدِيهِ فِي الْمَشَاهِدِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مشاہد باری پر حضرت کے در بیان مشاہد کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَدْلٍ فِي الْعَادِلِينَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انصاف پر حضرت کے در بیان انصاف کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شُكْرِيهِ فِي الشَّاكِرِينَ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شکر پر حضرت کے در بیان سب شکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ فِي الْأَمْوَالِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور امید پر حضرت کی در بیان سب امید کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَمْنِيهِ فِي الْأَمَانِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مراد پر حضرت کی در بیان سب مراد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَاجَتِي فِي الْحَاجَاتِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حاجت پر حضرت کی در بیان سب حاجت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَمَلِي فِي الْأَعْمَالِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عمل پر حضرت کی در بیان سب عمل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلِيَّيَّ فِي الْأَوْلِيَاءِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اولیاء پر حضرت کی در بیان اولیاء کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِقَائِي فِي اللَّقَائِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور لقا پر حضرت کی در بیان سب لقا کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَدَلِكُمْ فِي الْبَدَلَاتِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بدلت پر حضرت کی در بیان سب بدلت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَسَنٍ وَحُجْرَةَ فِي الْإِحْلَامِ



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فِي الْكَلْبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور علم پر حضرت کے درمیان سب علموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَقْبَانِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْفَقْهَاءِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ائمہ اربعہ پر حضرت کی درمیان سب علموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِيْمَانِ مُحَمَّدٍ فِي الْمُؤْمِنِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ایمان پر حضرت کے درمیان سب ایمان والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِسْلَامِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْمُسْلِمِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسلام پر حضرت کے درمیان سب مسلمانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَقِيدَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْعُقَاةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عقیدت پر حضرت کے درمیان سب عقیدت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رِسَالَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الرِّسَالَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پیغمبری پر حضرت کی درمیان سب پیغمبروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَنِي مُحَمَّدٍ فِي النَّبَوَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نبوت پر حضرت کی درمیان سب نبوتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَاسِطَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَسَائِلِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور واسطے پر حضرت کے درمیان سب واسطوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَسِيلَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَسِيلِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور وسیلہ پر حضرت کے درمیان سب وسیلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَنَاعَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَانِعِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور قناعت پر حضرت کی درمیان سب قناعت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَشْيَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَائِفِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ڈر پر حضرت کے درمیان سب ڈرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَخْوَفِهِ مُحَمَّدٍ فِي التَّخَوِّفِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خوف پر حضرت کے درمیان سب ڈرنے والوں کے

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ڈر پر حضرت کے درمیان سب ڈرنے والوں کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمَهُمْ' and other supplications.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْأَفْعَالِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور فعل پر حضرت کے درمیان سب فعلوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْأَعْمَالِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عمل پر حضرت کے درمیان سب عملوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الْإِيمَانِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ایمان پر حضرت کے درمیان سب ایمانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْمَالِ مُحَمَّدٍ فِي الْكَمَالِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مال پر حضرت کے درمیان سب کمالات کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ صَدَقَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُدْرَةِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خیرات کرنے پر حضرت کے درمیان سب خیراتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سِتِّ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَاءِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیحد پر حضرت کے درمیان سب اسموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُرْتَبَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمُرَاتِبِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بزرگی پر حضرت کے درمیان سب بزرگیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَصْقَبِ مُحَمَّدٍ فِي الْمُنَاقِبِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اوصاف پر حضرت کے درمیان سب اوصاف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنْزِلَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَنَازِلِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رتبے پر حضرت کے درمیان سب مراتب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دَرَجَةِ مُحَمَّدٍ فِي الدَّرَجَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور درجے پر حضرت کے درمیان سب درجوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَسْمَاءِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَاءِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور قصے پر حضرت کے درمیان سب قصوں کے

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام اوصاف پر حضرت کے درمیان سب اوصاف کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام رتبوں پر حضرت کے درمیان سب رتبوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام درجوں پر حضرت کے درمیان سب درجوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام اسموں پر حضرت کے درمیان سب اسموں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام خیراتوں پر حضرت کے درمیان سب خیراتوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام کمالات پر حضرت کے درمیان سب کمالات کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام بیحدوں پر حضرت کے درمیان سب بیحدوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام بزرگیوں پر حضرت کے درمیان سب بزرگیوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام اوصاف پر حضرت کے درمیان سب اوصاف کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام رتبوں پر حضرت کے درمیان سب رتبوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام درجوں پر حضرت کے درمیان سب درجوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام اسموں پر حضرت کے درمیان سب اسموں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام خیراتوں پر حضرت کے درمیان سب خیراتوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام کمالات پر حضرت کے درمیان سب کمالات کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام بیحدوں پر حضرت کے درمیان سب بیحدوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اس کے تمام بزرگیوں پر حضرت کے درمیان سب بزرگیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ خَاصَّةِ مُحَمَّدٍ فِي الْخِصَابِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خاصہ پر حضرت کے درمیان سب خاصوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَحْسَانِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَسَنِينَ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انکوئی پر حضرت کی درمیان سب نیکوں کو انکوئی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ مُحَمَّدٍ فِي الدَّاهِلِينَ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان پر حضرت کے درمیان کہہ کرے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِقَائِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَقْبِيَاءِ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پھیر گاری پر حضرت کی درمیان پر پھیر گاریوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَرَثَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَوْثَارِ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گناہان امت پر انکی درمیان سب گناہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَصِيانِ أَحْمَرَ فِي الْعَصِيَاءِ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انکی امت کے گناہوں درمیان گناہگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فِي الشَّفَاعَةِ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شفاعت پر حضرت کی درمیان شفاعت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَبَّةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمُحْبَبِينَ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور محبت پر حضرت کی درمیان محبت کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَرِيفِ مُحَمَّدٍ فِي الشُّرَكَاءِ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بزرگی پر حضرت کی درمیان بزرگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَنَاتِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَنَاتِ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بزرگاری پر حضرت کی درمیان بزرگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ هِدَايَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْهَدَاةِ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور راہ میں تیلانے پر حضرت کی درمیان راہ حق جاننے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ هَجْرَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْهَاجِرِينَ

اللہ ہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ہجرت پر حضرت کی درمیان سب ہجرت کرنے والوں کے

Handwritten notes in Urdu script, including the number 43 and various religious phrases.

Handwritten notes in Urdu script, including the number 43 and various religious phrases.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رِيَاضَتِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْوَةِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ریاضت پر حضرت کی درمیان ریاضت کرنوالوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَوْبَةِ مُحَمَّدٍ فِي النَّاسِ عَمِيرِينَ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور توبہ پر حضرت کی درمیان توبہ کرنے والوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَوْبَةِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَوَانِ مُحَمَّدٍ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیعت پر حضرت صاحب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَرْضِ مَثَلَيْدِهِ فِي الزُّمَامِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مَثَلَيْدِہ کی درمیان مَثَلِیوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَوْبَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْآثَانِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور توبہ کرنے پر حضرت کے درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رِيَاضِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَا

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ریاضت پر حضرت کے درمیان مہنہ داروں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حِيَاظَةِ مَلْبُوسِهِ فِي الْمَلَكِيَّةِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حیاظت کے کپڑے کی بیویوں درمیان سب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حُلَّةِ مُحَمَّدٍ فِي الْحُلَلِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حُلَّہ پر حضرت کے درمیان سب جوڑوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَمَلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَالِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سَمَلِہ پر حضرت کے درمیان بڑا بڑوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَلْقِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَحْلَاءِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حَلْقِہ پر حضرت کے درمیان ہر اہل بیویوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اسْرَادِ مُحَمَّدٍ فِي السَّرَادِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسْرَادِہ پر حضرت کے درمیان ہر کاموں کے

عینی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ریاضت پر حضرت کی درمیان ریاضت کرنوالوں کی سب سے زیادہ شایستگی ہے اور توبہ پر حضرت کی درمیان توبہ کرنے والوں کی سب سے زیادہ شایستگی ہے اور بیعت پر حضرت صاحب کے سب سے زیادہ شایستگی ہے اور مَثَلَيْدِہ کی درمیان مَثَلِیوں کی سب سے زیادہ شایستگی ہے اور حیاظت کے کپڑے کی بیویوں درمیان سب کے سب سے زیادہ شایستگی ہے اور حُلَّہ پر حضرت کے درمیان سب جوڑوں کے سب سے زیادہ شایستگی ہے اور سَمَلِہ پر حضرت کے درمیان بڑا بڑوں کے سب سے زیادہ شایستگی ہے اور حَلْقِہ پر حضرت کے درمیان ہر اہل بیویوں کے سب سے زیادہ شایستگی ہے اور اسْرَادِہ پر حضرت کے درمیان ہر کاموں کے سب سے زیادہ شایستگی ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ فِي الْأَهْلِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ فِي الْمُرَقَّاتِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ فِي الْقَمَرِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدٌ فِي الْبَطَائِنِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَهْرَةَ مُحَمَّدٍ فِي الظُّهْرِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لُقْمَةَ مُحَمَّدٍ فِي الْكَلْبَاتِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْجَبَّةِ مُحَمَّدٌ فِي الْجَبَاتِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ قَبَائِلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَقْبِيَّةِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عِبَادِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْيُنِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَزْدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَدْمَاءِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كَرِيْمِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَكْمَامِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دَيْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْيُنِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دَيْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْيُنِ

یہ دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سب لوگوں کے لیے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔

۹۵

یہ دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سب لوگوں کے لیے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في المنادي

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رومال پر آپ کے درمیان سب دروہوں کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الغدات

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شہدائے علی سربراہی کے درمیان سب دروہوں کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في صلاة

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پختہ نماز کے حضرت کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأهل

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کلمی ہر حضرت کے درمیان کیلئے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأوطان

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پردے پر حضرت کے درمیان سب دروہوں کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في العصور

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گھوہید پر آپ کے درمیان گھوہیدوں کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الخوف

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خوف پر حضرت کے درمیان خوفوں کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأقطار

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عبادت پر حضرت کے درمیان عبادتوں کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في اللذات

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور لذت پر حضرت کے درمیان لذتوں کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في العبادات

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عبادتوں پر حضرت کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأوقات

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور وقتوں پر حضرت کے درمیان وقتوں کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأسماء

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسموں پر حضرت کے درمیان اسموں کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأفعال

درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور افعال پر حضرت کے درمیان افعالوں کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم' and other religious text.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آپ کے شہ پر جو عرض میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَفِّهِ فِي أَحْفَاءِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب اور موسیٰ پر آپ کے درمیان موزوں

فِي مَا يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَيِّدِي مُحَمَّدٍ فِي الشُّرُ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ادرخت پر حضرت کے درمیان حضور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَائِمَةِ كَسْفِي فِي الْقَوَانِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پائے پر آپ کے پلنگ کے درمیان یا دن

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَسْمِي فِي الْبَلَدِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رسم پر حضرت کو پلنگ کے درمیان رسم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَشَبِي فِي الْبَلَدِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کھجور پر آپ کے محنت اور چمک کے درمیان کھجور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِسْمَارِي فِي الْمَسَامِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کیل پر آپ کی چوکی کے درمیان کیلوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَرِيكَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِرَائِكِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تخت پر آپ کے درمیان تختوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِسْمِي فِي الْأَمْسَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مس پر آپ کے درمیان مسوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَصْبِي فِي الْحَصَدِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور چٹائی پر حضرت کے درمیان چٹائی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَرَشِي فِي الْفَرَشِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بچھونے پر حضرت کے درمیان بچھونے

مفتی و قاری علامہ  
محمد رفیع الدین  
کرامت علیہ السلام  
میں فرمایا کہ  
یہ دعا ہے  
جو ہر روز پڑھ کر  
موت کی آفت سے  
بچا دیتا ہے  
اور اللہ تعالیٰ  
سے دعا ہے کہ  
یہ دعا ہر مسلمان  
پر لکھی جائے  
اور وہ اسے پڑھے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْفُرُشِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور چہرے پر آپ کے بچھرنے کے درمیان بھینون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ خَشَوْنَ شَيْبَةٍ فِي الْخَشَوَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بھرتی پر آپ کے بچھرنے کی درمیان بھرتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي الْخَامِرِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کجاوے پر آپ کے درمیان کجاووں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَعْدَانٍ فِي الشَّعْدَانِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شندوں پر آپ کے درمیان شندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَبَابٍ فِي الشَّبَابِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شہریوں پر آپ کے درمیان شہریوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَمَائِلٍ فِي الشَّمَائِلِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شہرے پر آپ کے درمیان شہرے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَمْسٍ فِي الشَّمْسِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شمس پر آپ کے درمیان شمس کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَمْسٍ فِي الشَّمْسِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شمس پر آپ کے درمیان شمس کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَمْسٍ فِي الشَّمْسِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شمس پر آپ کے درمیان شمس کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَمْسٍ فِي الشَّمْسِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شمس پر آپ کے درمیان شمس کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللہم صل وسلم علی محمد وعلیٰ آلہ' and other religious supplications.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَقْبَلِيَّةِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَائِلِينَ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اہل قبیلہ کے پر آپ کے درمیان قبیلہ کرنے والوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَقْبَلِيَّةِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ خَاتَمِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَوَاتِمِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انگوٹھی پر آپ کی درمیان انگوٹھیوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ فِضِّ مُحَمَّدٍ فِي الْفَضْلِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نیکیت پر حضرت کے درمیان نیکیتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُشَطِّ مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْشَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نکلنے پر آپ کی درمیان نکلنے والوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ امْشَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَشَاةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور چلنے پر آپ کی درمیان چلنے والوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ التَّسْبِيحِ مُحَمَّدٍ فِي التَّسْبِيحِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اہل جہاڑنے پر آپ کے درمیان نکلنے والوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مِرَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمِرَاةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آئینہ پر حضرت کے درمیان آئینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كُلِّ مُحَمَّدٍ فِي الْأَكْحَارِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شہ پر آپ کے درمیان سرسوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَلَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سردانی پر حضرت کے درمیان سردانیوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ امِئِلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْيَالِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سلاخی پر آپ کی درمیان سلاخیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دُهْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَوْهَانِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تیل پر حضرت کے درمیان تیلوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَقْبَلِيَّةِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَائِلِينَ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ خَاتَمِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَوَاتِمِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ فِضِّ مُحَمَّدٍ فِي الْفَضْلِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُشَطِّ مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْشَاتِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ امْشَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَشَاةِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ التَّسْبِيحِ مُحَمَّدٍ فِي التَّسْبِيحِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مِرَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمِرَاةِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كُلِّ مُحَمَّدٍ فِي الْأَكْحَارِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَلَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاةِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ امِئِلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْيَالِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دُهْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَوْهَانِ



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَشْهُدِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیٹے پر آپ کے درمیان سب بیعتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آپ کے بیٹے صبح اللہ اول شریف پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ يَوْمِ الْاَشْتَيْنِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آپ کے روزِ دو شنبہ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اسْبُوعِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَسَابِيحِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسبوع پر آپ کے درمیان ہفتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَشْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْعَشْرِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عشرہ پر آپ کے درمیان عشروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّيْلِ مُحَمَّدٍ فِي اللَّيَالِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رات پر آپ کے درمیان سب راتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَيَّامِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دن پر آپ کے درمیان سب دنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَضْوَالِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور موسم پر آپ کے درمیان موسموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ غَدَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الْغَدَاةِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صبح پر حضرت کی درمیان صبحوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَهْرَةِ مُحَمَّدٍ فِي الطَّهَارِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دوپہر پر حضرت کی درمیان دوپہروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اصْبِلِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَصْبَالِ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شام پر حضرت کی درمیان شاموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ امْكِنَةِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیٹے پر آپ کے درمیان سب بیعتوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آپ کے بیٹے صبح اللہ اول شریف پر  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آپ کے روزِ دو شنبہ پر  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسبوع پر آپ کے درمیان ہفتوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عشرہ پر آپ کے درمیان عشروں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رات پر آپ کے درمیان سب راتوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دن پر آپ کے درمیان سب دنوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور موسم پر آپ کے درمیان موسموں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صبح پر حضرت کی درمیان صبحوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دوپہر پر حضرت کی درمیان دوپہروں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شام پر حضرت کی درمیان شاموں کے

اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیٹے پر آپ کے درمیان سب بیعتوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آپ کے بیٹے صبح اللہ اول شریف پر  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آپ کے روزِ دو شنبہ پر  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسبوع پر آپ کے درمیان ہفتوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عشرہ پر آپ کے درمیان عشروں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رات پر آپ کے درمیان سب راتوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دن پر آپ کے درمیان سب دنوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور موسم پر آپ کے درمیان موسموں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صبح پر حضرت کی درمیان صبحوں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دوپہر پر حضرت کی درمیان دوپہروں کے  
اللہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شام پر حضرت کی درمیان شاموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِقَاعِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْبَقَاعِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بارگاہ زمین پر آپ کو درمیان گمراہوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَاحِيَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَوَاحِي

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور طرف پر حضرت کے درمیان مرفون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَرْضِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْضِ عَيْنِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زمین پر حضرت کی درمیان زمینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ قُرْبَىٰ مُحَمَّدٍ فِي الْقُرْبَىٰ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نسبت پر آپ کی درمیان نسبتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَطَنِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَطَنِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور وطن پر آپ کو درمیان وطنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَوْلِدِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَوْلِدِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مولد پر آپ کے درمیان مولدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَكَانِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَكَانِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مکان پر حضرت کے درمیان مکانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَضْرِبِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَضْرِبِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ضربہ پر حضرت کے درمیان ضربوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَدِينَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَدَائِنِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مدینہ پر آپ کے درمیان مدینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دَارِ مُحَمَّدٍ فِي الْآدَارِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گھر پر حضرت کے درمیان گھروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُسَلِّينَ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسَاكِينِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر مسکن پر آپ کے درمیان مسکنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَطْعَمِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَطَاعِمِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مصلح پر آپ کے درمیان مصلحوں کے

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بارگاہ زمین پر آپ کو درمیان گمراہوں میں  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور طرف پر حضرت کے درمیان مرفون کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زمین پر حضرت کی درمیان زمینوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نسبت پر آپ کی درمیان نسبتوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور وطن پر آپ کو درمیان وطنوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مولد پر آپ کے درمیان مولدوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مکان پر حضرت کے درمیان مکانوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ضربہ پر حضرت کے درمیان ضربوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مدینہ پر آپ کے درمیان مدینوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گھر پر حضرت کے درمیان گھروں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر مسکن پر آپ کے درمیان مسکنوں کے  
ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مصلح پر آپ کے درمیان مصلحوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَقْصَى حَجَلٍ فِي الْقُصُورِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور محل پر آپ کے درمیان مخلوق کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَيْمَانِ حَجَلٍ فِي الْأَيْمَانِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اہنی طرف اور آئی کے درمیان سب دینی طرفوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى شِمَالِ حَجَلٍ فِي الشِّمَالِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بائیں جانب آئی کے درمیان بائیں جانبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قُوتِ حَجَلٍ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اوپر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَتِّ حَجَلٍ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نیچے حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَدَامِ حَجَلٍ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب اور آگے حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَلْفِ حَجَلٍ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پیچھے حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَسَاسِ حَجَلٍ فِي الْأَسَاسِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بنیاد آئی کے درمیان بنیادوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَيْتِ حَجَلٍ فِي الْبَيْتِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گھر آپ کے درمیان گھروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَيْتِ صَهَارِ حَجَلٍ فِي الْبَيْتِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شمال پر آئی کے درمیان شمالوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَائِطِ حَجَلٍ فِي الْحَائِطِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دیوار پر آپ کے درمیان دیواروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اسْطَوَانَةِ حَجَلٍ فِي الْأَسْطَوَانَةِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ستون پر آپ کے درمیان ستونوں کے

عبدالرحمن بن ابراہیم  
کی پوری قوم کو بھیج  
عجیب کی پوری قوم کو  
بھی دیکھنا اور  
فہم نہ سنا  
پس دیکھنا  
ایسا دیکھنا  
میں صیبا  
اس کے عکس ہیں  
یعنی  
نعمی کا  
زوار  
باصری  
۱۲











اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْكِبْرِيَاءِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْوَكْبِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْمَشَارِبِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْغَمَامِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْكُرُونِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْبُحُورِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْبُحُورِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْقَضَائِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْقَوَارِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْبُحُورِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ فِي الْبُحُورِ

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے

ی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کونہ سے پر آپ کے درمیان کوزون کے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عِزِّهِ فِي الْأَعْدَانِيَّةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عذا پر آپ کی در میان عذا اذن کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَطْعَامِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَطْعَمَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کھانے پر آپ کے در میان کھانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أُمَّةِ كَوَلِّ مُحَمَّدٍ فِي الْمَاكُولَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ساری چیزوں پر آپ کے در میان کھانے کی چیزوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَهْلِ كَلْبَيْنِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کھانے پر آپ کے در میان کھانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَلِيْمَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَلَايَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ولیموں پر آپ کے در میان ولیموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَارِ مُحَمَّدٍ فِي النَّارِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آگ پر آپ کی در میان آگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَاءِ مُحَمَّدٍ فِي الْمِيَاهِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پانی پر آپ کے در میان پانیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَطْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِخْطَابِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور لکڑی پر آپ کی در میان لکڑیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَصْفِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَعْيُنِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آنکھوں پر آپ کی در میان آنکھوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رَيْحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْحَامِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خوشبو پر آپ کی در میان خوشبو کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ صَلَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الصَّلَاةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نماز پر آپ کی در میان نمازوں کے

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری دعائیں قبول فرمائی جائیں اور ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائی جائے۔ آمین

یہ ساری دعائیں صحیح ہیں اور ان سے بڑی برکت ہے۔ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ آمین







اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْقُرْبَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَرَامِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حُلَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَلَاةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَسَلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَشْمِ مُحَمَّدٍ فِي التَّشْمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ذَبْدِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَبْنِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اشْبَعِ مُحَمَّدٍ فِي الشَّبَعِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْحَسَنِ اصَابِعِهِ فِي اللَّاحِظِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اخْتِلَاتِهِ فِي الْحَامِدِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خِلَالِ مُحَمَّدٍ فِي الْمُخْتَلِطِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سُورِ مُحَمَّدٍ فِي الرَّسَائِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَافِكُهُ مُحَمَّدٍ فِي الْفَوَافِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَافِكُهُ مُحَمَّدٍ فِي الْفَوَافِ

وایں کہ بجز اللہ کے کسی اور کو دعا نہ دے سکتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو ہر شے کو پیدا کرتا ہے اور ہر شے کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر شے کو جانتا ہے اور ہر شے کو سناتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر شے کو دیکھتا ہے اور ہر شے کو سونپتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر شے کو چھو سکتا ہے اور ہر شے کو چھو سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر شے کو چمکاتا ہے اور ہر شے کو چمکاتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر شے کو چمکتا ہے اور ہر شے کو چمکتا ہے۔

۲۲

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ فِي الْأَمْثَلِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پھر یہ اپنی درمیان پھر ان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رُطْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْطَابِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پھر پھر یہ اپنی درمیان پھر ان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَفَرِ مُحَمَّدٍ فِي السَّفَرِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور پھر یہ اپنی درمیان پھر ان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَيْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَشْيَاءِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انکو ہر آپ کے درمیان انکو ہر آپ کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَوْضِ مُحَمَّدٍ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حوض محمد پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَمَّانِ مُحَمَّدٍ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انار پر آپ کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى زَيْبِ مُحَمَّدٍ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زبے پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى لُزْمِ مُحَمَّدٍ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بادام پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَنْبِ مُحَمَّدٍ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انہی پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى قِتَاءِ مُحَمَّدٍ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کلمہ حق پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نُورِ مُحَمَّدٍ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نور پر حضرت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَبِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَبِّ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حب پر آپ کے درمیان انکو ہر آپ کے

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انکو ہر آپ کے درمیان انکو ہر آپ کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى بيته محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خیرات کے

فی قرابتہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللهم صل وسلم على محمد وعلى قرابتہ محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور قرابت کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اخشیہ محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خیرات کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى قبیلہ محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور قبیلان کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اقطاب محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اقطاب کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى السب محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سب کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اهل بیت محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اہل بیت کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اصل محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اصل کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اولاد محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اولاد کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى ذی رحم محمد

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ذی رحم کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى الدار محمدی

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دار محمدی کے

اللهم صل وسلم على محمد وعلى بيته محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى قرابتہ محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اخشیہ محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى قبیلہ محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اقطاب محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى السب محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اهل بیت محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اصل محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اولاد محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى ذی رحم محمد  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى الدار محمدی













اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الطَّبَاخِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور باور میں برآب کے درمیان باور چہون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَصَاةِ مُحَمَّدٍ فِي الْعَصَاةِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور علی پر حضرت کے درمیان میں یوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دَائِعِي مُحَمَّدٍ فِي الدُّعَاةِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور چرواہے پر آپ کے درمیان چرواہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حِجَاهِ مُحَمَّدٍ فِي الْحِجَامِينِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حلیوں کے دالے پر آپ کے درمیان حلیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَصَادِ مُحَمَّدٍ فِي النَّصَادِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نصیب لینے والے پر آپ کے درمیان نصیب لینے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَنَادِي مُحَمَّدٍ فِي الْمَنَادِي

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گھنٹوں پر آپ کے درمیان گھنٹوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَبَاغِ مُحَمَّدٍ فِي الصَّبَاغِينِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رنگین کرنے والے پر آپ کے درمیان رنگین کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَمَانِ مُحَمَّدٍ فِي السَّمَانِينِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور گھمراہ کرنے والے پر آپ کے درمیان گھمراہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَدَادِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَدَادِينِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کناروں پر آپ کے درمیان کناروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى صِيَاغِ مُحَمَّدٍ فِي الصِّيَاغِينِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سنار پر آپ کے درمیان سناروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَادِي مُحَمَّدٍ فِي الْحَادِيَةِ

اسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ساریاں پر آپ کے درمیان ساریاں کے

یہ وہ زینت نامہ ہے  
جو ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے  
ساتھ فرشتوں میں زینت  
تھا کہ اس کا لفظ  
تاکر آپ کو پڑھ کر  
تو کیا پھر اپنے  
سکالیں بریا ہوتی  
اور ساریاں کی  
تین بار پڑھنا  
تو پھر پڑھنا  
اور یہ فرق  
کے نامہ  
نورانی  
کے  
اسی  
تو  
تو  
تو



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٌ فِي التَّوَاهِدِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت صاحب پر اور نہ پر آپ کی درمیان نبیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَلِيقِهِ مُحَمَّدٌ فِي الْخَلْقَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خلقت پر آپ کی درمیان مخلوقوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَائِفَتِ مُحَمَّدٍ فِي الطَّلَاقَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بندگی پر آپ کی درمیان بندگیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِبَادَتِ مُحَمَّدٍ فِي الْعِبَادَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عبادت پر آپ کی درمیان عبادتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَهَارَةِ مُحَمَّدٍ فِي الطَّهَارَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور طہارت پر آپ کی درمیان طہارتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى غَسَلِ مُحَمَّدٍ فِي الْغَسَلَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور غسل پر آپ کے درمیان غسل کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَضُوءِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَضُوءَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور وضو پر آپ کے درمیان وضو کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سُكُونِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسَاكِينِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سکون پر آپ کی درمیان سکون کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَبِيءِ مُحَمَّدٍ فِي التَّيْبَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تیمم پر آپ کی درمیان تیمم کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَسْمِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسْحَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مسح پر آپ کے درمیان مسح کرنے والوں کے

اور عبادت کا ایک اور حال تھا کہ حضرت محمد صاحب پر آپ کی درمیان عبادتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٌ فِي التَّوَاهِدِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمْعَةٍ مَّحَمَّدٍ فِي الْجُمُعَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جمعے پر آپ کے درمیان جموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَسْجِدِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسَاجِدِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مسجد پر حضرت کی درمیان مسجدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنِيْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَنَاسِبِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور منبر پر حضرت کے درمیان سب منبروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آذَانِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَوَاقِفِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آذان پر حضرت کی درمیان سب آذان و موقفوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اسْتِزَارِ مُحَمَّدٍ فِي السُّتُوْرَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور استری پر حضرت کی درمیان سب ستروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اعْتِنِ مُحَمَّدٍ فِي الْعُنُوْتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور عیون پر حضرت کے درمیان سب عیون کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمَاعَتِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَمَاعَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جماعت پر حضرت کی درمیان سب جماعتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اصْفِ مُحَمَّدٍ فِي الصُّفُوْفِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور صف پر حضرت کی درمیان سب صفوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ خُطْبَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْخُطَبِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خطبہ پر حضرت کے درمیان سب خطبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اِقَامَتِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَقَامِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اقامت پر حضرت کی درمیان اقامت کے مقاموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سِجَادَةِ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُوْدِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سجدہ پر حضرت کی درمیان سب سجدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَنَفَةِ مُحَمَّدٍ فِي الطَّنَائِفِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور طائفہ پر حضرت کی درمیان سب طائفوں کے

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جمعے پر آپ کے درمیان جموں کے مسجدوں کے منبروں کے آذان و موقفوں کے ستروں کے عیون کے جماعتوں کے صفوں کے خطبوں کے اقامت کے مقاموں کے سجدوں کے طائفوں کے

45

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جماعت پر حضرت کی درمیان سب جماعتوں کے صفوں کے خطبوں کے اقامت کے مقاموں کے سجدوں کے طائفوں کے

لا  
 تفرقوا بيني وبين علي بن ابي طالب  
 في يومنا هذا ولا في يومنا الآخر  
 ولا في يومنا الثالث  
 ولا في يومنا الرابع  
 ولا في يومنا الخامس  
 ولا في يومنا السادس  
 ولا في يومنا السابع  
 ولا في يومنا الثامن  
 ولا في يومنا التاسع  
 ولا في يومنا العاشر  
 ولا في يومنا الحادي عشر  
 ولا في يومنا الثاني عشر  
 ولا في يومنا الثالث عشر  
 ولا في يومنا الرابع عشر  
 ولا في يومنا الخامس عشر  
 ولا في يومنا السادس عشر  
 ولا في يومنا السابع عشر  
 ولا في يومنا الثامن عشر  
 ولا في يومنا التاسع عشر  
 ولا في يومنا العشرون  
 ولا في يومنا الحادي والعشرون  
 ولا في يومنا الثاني والعشرون  
 ولا في يومنا الثالث والعشرون  
 ولا في يومنا الرابع والعشرون  
 ولا في يومنا الخامس والعشرون  
 ولا في يومنا السادس والعشرون  
 ولا في يومنا السابع والعشرون  
 ولا في يومنا الثامن والعشرون  
 ولا في يومنا التاسع والعشرون  
 ولا في يومنا الثلاثين

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِيمَانِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأُمَّةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَلَواتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الصَّلَواتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَيَّامِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَائِمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حُرَابِ مُحَمَّدٍ فِي الْحَادِيثِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَجْزَائِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْجِذَائِرِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَيْبِ مُحَمَّدٍ فِي النَّسَائِرِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَكْوِينِ مُحَمَّدٍ فِي التَّكْوِينِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْحُرْمَاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى فُرُضِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُرْآنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَاجِبِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَأْجِبَاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سُنَّتِ مُحَمَّدٍ فِي السُّنَنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسْتَحَبِّ مُحَمَّدٍ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسْتَحَبِّ مُحَمَّدٍ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسْتَحَبِّ مُحَمَّدٍ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسْتَحَبِّ مُحَمَّدٍ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسْتَحَبِّ مُحَمَّدٍ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي التَّوَّابِينَ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب اللہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْمُبَاحَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب بہانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْمُتَجِدِّينَ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب چھوٹے گناہوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْمُتَشْرِكِينَ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب شرکاء کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْمُتَشَابِهِينَ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب مشابہتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي التَّوَّابَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب توبہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الشُّعْبَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب شعبوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الدُّعَاءِ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب دعاؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْقَائِمِينَ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب قائم رہنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْقَوْمَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب قوموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْمَأْمُورِينَ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب مامورین کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْبُرُوقَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے درمیان سب برقوں کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the number '۷' at the top and various religious phrases.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَلْبَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَلَدِ

ای روز اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیخبر حضرت کو حج و عمرہ کے درمیان سب شیخوں کے درمیان روزہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَقْبَلِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَوْلِ

ای روز اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور فقید حضرت کے درمیان سب قاعدوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الشَّهِيدِ مُحَمَّدٍ فِي الشَّرْقِ

ای روز اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شہید حضرت کے درمیان سب تشدد

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَلَامِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسْجِدِ

ای روز اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سلام کے درمیان سب تمام کرب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَنَابِحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجَا

ای روز اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور منابح حضرت کے درمیان سب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَجْهِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَجْهِ

ای روز اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور وجہ حضرت کے درمیان سب دعا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَيْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْإِي

ای روز اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور خیر حضرت کے درمیان سب ذکر و

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَيْفِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَشْجِدِ

ای روز اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نائف حضرت کے درمیان سب نماز

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَفْطَارِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَقَادِ

ای روز اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور روزہ کھولنے پر حضرت کے درمیان سب روزہ

وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر

وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر  
 وہاں کیا بیلا دعا ہے اس کا ذکر



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 اے درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صحابہ پر حضرت کا در بیان میں اور ان کے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 اے درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صحابہ پر حضرت کا در بیان میں اور ان کے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 اے درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صحابہ پر حضرت کا در بیان میں اور ان کے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 اے درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صحابہ پر حضرت کا در بیان میں اور ان کے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 اے درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صحابہ پر حضرت کا در بیان میں اور ان کے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 اے درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صحابہ پر حضرت کا در بیان میں اور ان کے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 اے درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صحابہ پر حضرت کا در بیان میں اور ان کے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 اے درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صحابہ پر حضرت کا در بیان میں اور ان کے  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 اے درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ان کے صحابہ پر حضرت کا در بیان میں اور ان کے

(Vertical marginal notes in Urdu script, partially illegible due to bleed-through and fading)



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the number 101.





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ

Handwritten notes in Urdu script, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الشَّيْبَانِ' and other religious expressions.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلِيَّائِهِ فِي الْمَنَاءِ الشَّيْخِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور فرمان پر حضرت کے درمیان سب زمانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي التَّجْمِينِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیعت پر حضرت کی درمیان سب زمانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلِيَّائِهِ فِي الْأَسْبَابِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسباب پر حضرت کے درمیان سب چیزوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حُرِّدِهِ فِي الْحَوَاكِبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور برہمنوں پر حضرت کی درمیان برہمنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلِيَّائِهِ فِي الرِّمَاحِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ریمچوں پر حضرت کے درمیان سب ریمچوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلِيَّائِهِ فِي الْحَمَاجِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور حجاجوں پر حضرت کے درمیان سب حجاجوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي السُّيُوفِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تلواروں پر حضرت کی درمیان سب تلواروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلِيَّائِهِ فِي الْمَقَالِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور لہجوں پر حضرت کی درمیان کلموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْجَنَانِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جنوں پر حضرت کی درمیان سب جنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلِيَّائِهِ فِي الْأَسْوَاطِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسواط پر حضرت کے درمیان سب اسواطوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلِيَّائِهِ فِي السُّبُحِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سُبُح پر حضرت کے درمیان سب سُبُحوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلِيَّائِهِ فِي الْأَسْبَابِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسباب پر حضرت کے درمیان سب اسبابوں کے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي النَّصِيِّ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ قَوْمِ بَيْتِهِ فِي الْأَوْاسِي

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَنِي الْحَاجِبِي

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دُرِّ الْأَدَمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ بَيْتِهِ فِي الْبَيْضَاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لَوَائِحِ بَيْتِهِ فِي الْأَوْبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَسْكَرِ بَيْتِهِ فِي الْعَسَاكِرِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ نَاصِيَةِ بَيْتِهِ فِي النَّوَاصِي

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَعْسَكِرِ بَيْتِهِ فِي الْمَعْسَكِرَاتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَلِكَةِ بَيْتِهِ فِي الْمَلَاحِمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رَاكِبِ بَيْتِهِ فِي الرُّكَبَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حُزْبِ بَيْتِهِ فِي الْأَحْزَابِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي النَّصِيِّ وَالْأَوْاسِي وَالْحَاجِبِي وَالْأَدَمِ وَالْبَيْضَاتِ وَالْأَوْبَانِ وَالْعَسَاكِرِ وَالنَّوَاصِي وَالْمَعْسَكِرَاتِ وَالْمَلَاحِمِ وَالرُّكَبَانِ وَالْأَحْزَابِ





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَائِلَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْغَنَائِمِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور لوٹ پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَائِلَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسَاوِدِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور قیدی پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَائِلَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَنْصِيَاءِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور غائب پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

۱۹ فِي كَفْرِ ضِدِّهِ وَمَا تَمَّ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَائِلَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَمْرِ الْأَخْرَجِي

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیماری پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَائِلَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْحَابِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور سختی پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَائِلَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَمِيَّاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور تہ پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَائِلَتِهِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَصْدُوقِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور دوسرے پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى كُرْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْكُرْبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور غم پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَجْعِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَوْجَاعِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور درد پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى دَوَائِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَذْيَةِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور درد پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عِلَاجِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَعَالِجِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور علاج پر حضرت کی درمیان سب لوگوں کے

عبارتیں اور تفسیریں  
اللہ تعالیٰ کے  
بارگاہ عالیہ میں  
پہنچانے کے لئے  
یہ دعا ہے  
جو ہر حال میں  
کامیاب ہے  
اور ہر وقت  
مستجاب ہے  
اللہ تعالیٰ سے  
معاذت چاہتا ہوں  
جو اس دعا کو  
پڑھنے سے  
بے نصیب رہے  
اللہ تعالیٰ سے  
معاذت چاہتا ہوں  
جو اس دعا کو  
پڑھنے سے  
بے نصیب رہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْأَوْصِيَاءِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور وصیت پر حضرت کی درمیان سب وصیتوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْمَكْرُوهَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور ماکروہات پر حضرت کی درمیان سب ماکروہات کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْمُشْهَدَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مشاہدات پر حضرت کی درمیان سب مشاہدات کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْأَسْرَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسرار پر حضرت کی درمیان سب اسرار کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْأَنْصِلَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور انصیلات پر حضرت کی درمیان سب انصیلات کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْفُرَاكَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور فرائض پر حضرت کی درمیان سب فرائض کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْأَكْفَانِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اکفان پر حضرت کی درمیان سب اکفان کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْأَسْمَاءِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور اسماء پر حضرت کی درمیان سب اسماء کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْفَتَى

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور فتی پر حضرت کی درمیان سب فتی کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْفَرَاقَاتِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور فریق پر حضرت کی درمیان سب فریق کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْجَنَائِزِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جنازات پر حضرت کی درمیان سب جنازات کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فِي الْكَلْبِ

الہی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور کلب پر حضرت کی درمیان سب کلب کو

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ' and other religious expressions.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الْمَيِّتَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب اور آلہ انجاء پر حضرت کی درمیان سب کو انکسار

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الْحَيِّ عَمْرٍو

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آلہ پر حضرت کی درمیان سب کو مدد

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الْخَائِرَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آلہ کو ان پر حضرت کی درمیان سب کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي بَيْتِكَ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آلہ نماز جنازہ حضرت کی درمیان سب نمازوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي اللَّيْلَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آلہ کی ایسی ہی حضرت کی درمیان سب کی ایسی ہی کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي النَّهَارِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور آلہ ہی پر حضرت کی درمیان سب بیٹوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الْمَقَابِرِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مقبروں پر حضرت کی درمیان سب مقبروں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الْمَدَائِنِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مکہ مدین ہونے پر حضرت کی درمیان سب بلوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الْمَزَلَّاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور غمزداری پر حضرت کی درمیان سب غمزداری

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الْقَبَاتِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور بیچ پر حضرت کی درمیان سب جنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الْمَشَاهِدِ

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور جگہ شہادت پر حضرت کی درمیان سب شہاد

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الرُّؤْيَا

ایسی درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور رؤیاء اور پر حضرت کی درمیان سب رؤیوں کو

۱۱۰

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَدَّعِي فِي الْمَقَابِرِ

Marfat.com

وَالعشاق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الشَّكَاةِ تَبَلُّغًا

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شریفین پر حضرت کی درمیان سب تقدیروں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الذَّاكِرَاتِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زیارت پر حضرت کی درمیان سب زیارتوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الدَّعَاةِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور زیارت کرنے والی پر حضرت کی درمیان سب زیارتوں کو

فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِأَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْبُحُورِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شریفین پر حضرت کی درمیان سب بحوروں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْأَكْرِيهِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور نشان محمد پر حضرت کی درمیان سب نشانوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الشَّفَاعَةِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور شفاعت پر حضرت کی درمیان سب شفاعتوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْمَقَامَاتِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور مقام محمود پر حضرت کی درمیان سب مقاموں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْوَسَائِلِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور وسیلے پر حضرت کی درمیان سب وسیلوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْخُدَاةِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور باغ پر حضرت کی درمیان سب باغوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْجَنَابَاتِ

ای درود اور سلام بھیج حضرت محمد صاحب پر اور طبقات اعلا و اعلیٰ پر حضرت کی درمیان سب طبقات اعلا و اعلیٰ کو

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الشَّكَاةِ تَبَلُّغًا' and other variations of the main text.





يا محب الفقراء يا ائیس الغرباء اهر بها اليك العبد المذنب الكئيب محمد ناصر علي المسكين بن الشيخ سيد علي بن  
 الساكن بقصبة آره وقال يا رسول الله ان الناصر ولو سلك مسلك السود وعصاك الارحماك اوسع لاراحم ولا  
 لمجانى سواك اللهم واجعل شهادتي في المدينة والقبعة في البقيع مع السكينة اللهم واجعل حجابي مبروراً وذنبياً مقهوراً  
 اوسيناً مشكوراً وكن لنا ناصر واجلنا منصوراً واجل في قبورنا نوراً وعلی الصراط نوراً وافر سب بيننا وبين الناس  
 سورا وبن لنا في الجنة قصوراً ووزنا حوراً ووزنا على الدوام برويتك وزيارت حبيك صلى الله عليه وآله وسلم نوراً وهدى

فہرست اسمی حافظان قصبہ آره ضلع شاہ آباد مذکورہ و ترتیباً نوشتہ شد

نام حافظ	ابن	عمر	ساکن	شاگرد	نام حافظ	ابن	عمر	ساکن
حافظ کفایت اللہ صاحب	شیخ اصغر علی	۳۸	شکھی قصبہ آره	حافظ محمد واجد	حافظ عبدالغنی صاحب	حاجی نعمت علی	۲۵	آرہ تری محلہ
حافظ حاجی بوسے صاحب	حاجی ناصر علی	۲۸	آرہ چوک مسجد	"	حافظ امیر غفار صاحب	وزیر علی خان	۳۵	آرہ قاضی محلہ
حافظ ابو سعید صاحب	شیخ تندر	۵۱	آرہ تری محلہ	حافظ محمد علی موم	حافظ عظیم ہواوی	مولوی صاحب	۳۲	آرہ سید باہر
حافظ ابوالحسن صاحب	میر الطاف علی	۱۶	آرہ ماہر مسجد	حافظ نور محمد و عزیز	حافظ مولوی محمد	شیخ عبدالرحیم	۲۲	آرہ چوک مسجد
حافظ سخی صاحب	حافظ مولوی محمد	۲۱	آرہ چوک مسجد	حافظ غلام محمد	حافظ مولوی محمد	حاجی مولوی صاحب	۱۳	"
حافظ مولوی ظہیر حسن	ناصر ذکی الدین	۱۶	"	حافظ ولی محمد پوچی	عبدالغلام صاحب	حاجی رضی الدین	۳۶	"
حافظ مولوی محمد	مولوی فضل محمد	۲۵	"	حافظ مولوی محمد	حافظ محمد صاحب	محمد ناصر علی	۱۱	"
حافظ علی حسین صاحب	میر علی حسین	۱۲	آرہ ماہر مسجد	حافظ مولوی محمد	حافظ مظفر حسین صاحب	حافظ محمد علی رحمان	۲۸	آرہ ماہر مسجد
حافظ محمد صدیق صاحب	شیخ پیر علی	۳۷	شکھی قصبہ آره	حافظ کفایت اللہ	حافظ عبدالغفار صاحب	شیخ ایزد بخش	۲۳	برہرہ قصبہ آره
حافظ نور علی صاحب	شیخ سادات علی	۲۲	"	"	حافظ منیر صاحب	شیخ وزیر علی	۲۵	"
حافظ عبدالکریم صاحب	شیخ چھوڑن	۲۵	آرہ تری محلہ	"	حافظ محمد عبدالکرم صاحب	حافظ محمد احمد	۲۰	آرہ تری محلہ
حافظ محمد ارباب صاحب	حافظ محمد واجد	۱۶	"	"	حافظ عبدالرحیم صاحب	شیخ غلام نبی	۲۰	برہرہ قصبہ آره
حافظ ابوالحسن صاحب	شیخ الطمان احمد	۲۰	"	"	حافظ نور محمد صاحب	شیخ عبدالقادر	"	"
حافظ محمد عباس صاحب	شیخ جوہر علی	۲۵	برہرہ قصبہ آره	حافظ حرمت علی	حافظ خدا بخش صاحب	شیخ امی بخش	۲۵	آرہ چوک مسجد
حافظ محمد کریم صاحب	شیخ علا الدین	۱۶	آرہ چوک مسجد	حافظ کفایت اللہ	حافظ محمد صاحب	شیخ حبیب	۲۰	آرہ بابو بازار
حافظ حلال الدین صاحب	شیخ نور الدین	۲۲	آرہ ماہر محلہ	حافظ محمد صدیق	حافظ حرمت علی صاحب	شیخ عین	۳۰	آرہ ماہر محلہ
حافظ عبدالغلام صاحب	شیخ سیرین	۳۵	آرہ ماہر مسجد	حافظ شان نور محمد	حافظ امیر صاحب	شیخ سفیان اللہ	۳۲	آرہ چوک محلہ





33299 / 367  
367

<p>کاش - مدارج البشوة - حالات فضیلت حضرت خاتم الرسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصنفہ حضرت شاہ عبدالحق دہلوی دو جلد میں نہایت عمدگی سے چھپی ہو۔ شرح سفر السعادت - بنی ارجال شرعیہ کے از روئے احادیث کتب کے چھ جلدوں میں - ۱ - در طہارت پیغمبر ۲ - در نماز حضرت - ۳ - صیام البنی - ۴ - حج البنی - ۵ - از کاربانی ۶ - در عموم احوال معاش حضرت م مصنفہ مولانا عبدالحق دہلوی - جامع حلیمی - احوال سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں از شاہ حبیب نعمۃ اللہی -</p>	<p>وعاسے گنج بخش مع شمش قفل اور اور عایتین تادرتا اور حفاظت کے لیے توہین کر کے گیلے میں ڈالنا سود مند و مجرب ہے - مجموعہ اور او - وظائف شامل دعائے نزل ۱ - و ۲ - و ۳ - ترجم - ۴ - اور ۵ - ۶ - اور ۷ - و ۸ - ۵ - درود مانا ہو - جواہر القرآن - ترجم وظائف قرآنی مدونہ - محررین اسامہ - جلال الافغان فی علم القرآن - نادر رسالہ مؤلف مصنفہ مولوی ابوالکیر معین الدین المشہدی مجموعہ تہذیب الفارسی - حسین رسالہ عدو اللہ و مقصود الفارسی - در سالہ بیان انجیل للتربیل شامل ہے - مجموعہ خطب - مشہور خطبے میں مرتبہ مولانا محمد اسماعیل دہلوی کا - نور الفواد - معروف بہ زاد المعاد - مصنفہ مولوے نور الدین صدیقی - شواہد البشوة - اس میں سیر و اخلاق حضرت پیغمبر اور انکار آل اطہار اور اصحاب کبار اور انجیل مطہرہ کے مذکور ہیں از ملا عبد الرحمن - مدارج البشوة - بیان شرائف احوال حضرت خاتم المرسلین بڑی مستند کتاب ہے از مسین الدین</p>
<p>متفرقات دینیہ اردو شبلیہ احمدی - سراپاے خاتم المرسلین کا بیان مولفہ جمال الدین حسن خان - مثنوی زائر - دعوت قبائل قریش مصنفہ نواب شیر علی خان - دوازدہ مجلس - مسیحا - فی احوال سیدنا الایمان - مولفہ مولوی دجیب الدین محمد رضوی - اسرار کربلا - حالات معرکہ کربلا سے متعلق مولفہ منشی محمد ظہیر الدین بلگرامی -</p>	<p>مظہرہ کے مذکور ہیں از ملا عبد الرحمن - مدارج البشوة - بیان شرائف احوال حضرت خاتم المرسلین بڑی مستند کتاب ہے از مسین الدین</p>



فہرست

مہر نبوت نعت پیر من تصنیف خواجہ  
 میرزا لعلخان نظام۔  
 رموز القرآن۔ ادوات قرآن کا بیان مولفہ  
 مولوی محمد حسین علی لائق شاہ جہانپوری۔  
 آثار محشر۔ علامات قیامت کا حال۔  
 صبح کا ستارہ۔ حالات بہشت و دوزخ  
 و قیامت مولفہ مولوی عباس علی۔  
 قیامت نامہ بہشت نامہ۔ مولفہ  
 مولوی فیاض الحق۔  
 آثار قیامت۔ قیامت کا احوال۔  
 اکیس ہدایت۔ ترجمہ کیمیائی سعادت۔  
 مترجم مولوی نذیر الدین۔  
 مذاق العارفین۔ ترجمہ امین العلوم کا  
 چار جلد مترجم مولوی محمد حسن صاحب۔  
 ہدایۃ الکونین۔ الی شہادۃ اکسین۔  
 مولفہ ابوالخیر مولوی محمد حسین الدین شہیدی۔  
 تحفہ درود۔ مغب۔ پنجم الکلام۔  
 مولفہ مولوی منظور احمد۔  
 رسالہ کسب الایمان۔ مصنفہ مولوی نور الحق  
 شجرہ طغرائے۔ اساتذہ دوزخہ امام  
 علیہم السلام از صنعت کاری مولوی محمد اویسی  
 خوشنویس لائانی۔  
 دہ جہاں منطوم۔ مورکہ شہادت کرلا

علی الرحمن شہید مولفہ  
 جنگ نامہ کر بلا۔ اقامت کر بلا  
 دہ مخزن۔ مصائب کر بلا معنی  
 نصر اللہ خان دھمال۔  
 مجموعہ توشہ عقیقی۔ درود و طائف اساتذہ  
 النبی مع خواص و ناچھائے مبارک و رسالت پناہ  
 تالیف مولوی محمد عباس۔  
 عین الہکا۔ موقوف بہ دو مجلس۔ رسالہ  
 شطرا مشہور بہ چیل مجلس۔ تصنیف  
 نواب سید عطاء اللہ۔  
 مجموعہ نو دود نامہ۔ شامل چند رسائل ذیل  
 ادعائے معنی۔ ۲ قصیدہ بردہ۔ ۳  
 بات سعاد۔ قصیدہ غوثیہ۔ ۵۔  
 دعائے سرکالی۔ ۶۔ قصیدہ اوسین قرنی  
 انوار محمدی۔ بیان اختلاف فرق اسلامیہ  
 تصنیف محمد امیر اکبر آبادی۔  
 شرح چیل حدیث۔ تصنیف میر علی۔  
 مجموعہ۔ وفات ائمہ۔ قصیدہ نعتیہ۔  
 قصہ حضرت بلال۔ قصہ حضرت  
 دانی حلیمہ۔ نبوت نامہ۔ موقوف بہ  
 حلیمہ شریف۔  
 مولود شریف منطوم۔ از مولود شریف